



جہنم کی رقاصہ



عمران سیریز نمبر 5

جہنم کی رقصہ

(مکمل ناول)

عمران سر جھکائے ہوئے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔

۲

تین گھنٹے کے اندر ہی اندر پورے محلے کو معلوم ہو گیا کہ عمران نے استعفیٰ دیدیا ہے۔۔۔۔۔۔
خبر پر سب سے زیادہ خوشی کیپٹن فیاض کو ہوئی! وہ عمران کا دوست ضرور تھا۔ لیکن اسی
تک جہاں خود اس کے مفاد کو نہیں نہ لگتی ہو۔۔۔۔۔۔ عمران کے باقاعدہ ملازمت میں آجانے
بعد سے اس کا وقار خطرے میں پڑ گیا تھا۔
ملازمت میں آجانے سے قبل عمران نے بعض کیسوں کے سلسلے میں اس کی جو مدد کی تھی
اس کی بنا پر اس کی ساکھ بن گئی تھی! لیکن اس کے ملازمت میں آتے ہی عملی طور پر فیاض
حیثیت صفر کے برابر بھی نہیں رہ گئی تھی۔

”عمران ڈیر!“ فیاض اس سے کہہ رہا تھا! ”مجھے افسوس ہے کہ تمہارا ساتھ چھوٹ رہا ہے۔
”کسی دشمن نے اڑائی ہوگی!“ عمران نے لا پرواہی سے کہا۔۔۔۔۔۔ پھر فیاض کا شانہ تھپکتا ہوا
ہو۔۔۔۔۔۔ نہیں دوست! میں قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا! فی الحال اپنے بچنے کے
کمرے میرے لئے خالی کر دو!“

”کیا مطلب!“

”والد کہتے ہیں کہ میں اب ان کی کوشھی میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا! حالانکہ مجھے یقین ہے
کہ میں رکھ سکتا ہوں!“

”اوہ۔۔۔۔۔۔ اب میں سمجھا!۔۔۔۔۔۔ غالباً اس کی وجہ وہ عورت ہے!“ فیاض ہنسنے لگا!

”ہائیں وہ عورت!“ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ ”تم میرے باپ کو بدنام کرنے کی کوشش

کر رہے ہو۔۔۔۔۔۔ شٹ اپ یونول!“

”میرا مطلب یہ تھا!۔۔۔۔۔۔!“

”نہیں! بالکل شٹ اپ! ابھی سن پائیں تو تم سے بھی استعفیٰ لکھو! لیس! خبردار ہو شیار۔۔۔۔۔۔“

تم میری بات کا جواب دو! کمرے خالی کر رہے ہو۔۔۔۔۔۔ یا نہیں!“

”یاد بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی۔۔۔۔۔۔ کیا وہ عورت بھی تمہارے ساتھ ہی رہے گی!“

”اس کا نام روشی ہے!“

”خیر کچھ ہو! ہاں تو میری بیوی کچھ اور سمجھے گی!“

”کیا سمجھے گی!“

”یہی کہ وہ تمہاری داشتہ ہے!“

”ہائیں لاجل ولاقوۃ۔۔۔۔۔۔ میں تمہاری بیوی کی بہت عزت کرتا ہوں!“

”میں اس عورت کے بارے میں کہہ رہا تھا!“ فیاض جھینپا بھی اور جھلا بھی گیا!

”اوہ تو ایسے بولونا! میں سمجھا شاید تمہاری بیوی مجھے اپنا داشتہ سمجھے گی!“

”یعنی کہ میرا مطلب یہ ہے۔۔۔۔۔۔ میں شاید ابھی کچھ غلط بول گیا ہوں۔۔۔۔۔۔ اچھا خیر۔۔۔۔۔۔ اگر

تم بیٹھے میں جگہ نہیں دینا چاہتے تو وہ فلیٹ ہی مجھے دے دو جسے تم پگڑی پر اٹھانے والے ہو۔“

”کیسا فلیٹ!“ فیاض چونک کر اسے گھورنے لگا!

”چھوڑو یار! اب کیا مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تم نے چار پانچ فلیٹوں پر ناجائز طور پر قبضہ کر

رکھا ہے۔۔۔۔۔۔!“

”ذرا آہستہ بولو! گدھے کہیں کے!“ فیاض چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا۔

”فارمن ہاؤز والے فلیٹ کی کنجی میرے حوالے کرو! سمجھے!“

”خدا تمہیں غارت کرے!“ فیاض اسے گھونرہ دکھاتا ہوا دانت پیس کر بولا۔

۳

تین چار دن بعد شوہر کے ایک سب سے زیادہ تعداد میں شائع ہونے والے اخبار میں لوگوں
کی نظروں سے ایک عجیب و غریب اشتہار گزر رہا جس کی سرخی یہ تھی!۔۔۔۔۔۔ طلاق حاصل کرنے
کے لئے ہم سے رجوع کیجئے۔

اشتہار کا مضمون تھا۔

”اگر آپ اپنے شوہر سے تنگ آگئی ہیں۔ تو طلاق کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔۔۔۔۔۔ لیکن
عدالت سے طلاق حاصل کرنے کے لئے شوہر کے خلاف ٹھوس قسم کے ثبوت پیش کرنے
پڑتے ہیں! ہم مناسب معاوضے پر آپ کے لئے ایسے ثبوت مہیا کر سکتے ہیں جو طلاق کے لئے
کافی ہوں! صرف ایک بار ہم سے رجوع کر کے ہمیشہ کے لئے سچی خوشی حاصل کیجئے! ہمارے
ادارے کی مخصوص کارکن ایک اینگلو بریز خاتون ہیں۔

الشتہار۔ روشی اینڈ کو۔ فارمن بلڈنگ فلیٹ نمبر ۴۔۔۔۔۔۔!“

کیپٹن فیاض نے یہ اشتہار پڑھا اور اس کا منہ حیرت سے کھل گیا! فارمن بلڈنگ کا چوتھا فلیٹ

وہی تھا جس کی کبھی عمران اس سے لے گیا تھا!... روشی اینڈ کو! فیاض اپنی یادداشت پر زور دینے لگا! روشی... یہ اسی عورت کا نام ہے جسے عمران شاداب گھر سے لایا ہے۔

فیاض اپنی ٹھوڑی کھجانے لگا!... یہ ایک بالکل ہی نئی حرکت تھی... اس سے شہر میں انتشار کی لہر دوڑ سکتی تھی! لیکن اسے غیر قانونی نہیں کہا جاسکتا تھا!... یقیناً روشی اینڈ کمپنی اس کے محکمے کے لئے ایک مستقل دردمن بننے والی تھی!...

فیاض نے ہاتھ پیر پھیلا کر ایک طویل انگڑائی لی اور سگریٹ سلگا کر دوبارہ اشتہار پڑھنے لگا۔ اس نے روشی کے متعلق صرف سنا تھا... اسے دیکھا نہیں تھا!

وہ تھوڑی دیر بیٹھا سگریٹ پیتا رہا... پھر اٹھ کر آفس سے باہر آیا موٹر سائیکل سنبھالی اور فارمن بلڈنگ کی طرف روانہ ہو گیا!

فارمن بلڈنگ ایک تین منزلہ عمارت تھی اور اس کے فلیٹوں میں زیادہ تر تجارتی فرموں کے دفاتر تھے۔

کمپنن فیاض چوتھے فلیٹ کے سامنے رک گیا! جس پر ”روشی اینڈ کو“ کا بورڈ لگا ہوا تھا... فیاض نے بورڈ کی پوری تحریر پڑھی۔

”روشی اینڈ کو... فارورڈنگ اینڈ کلیئرنگ ایجنٹس۔“

فیاض نے براسامندہ بنا کر اپنے شانوں کو جنبش دی اور جتن ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔

کمرے میں روشی اور عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا فیاض کو دیکھ کر عمران نے کمرے کی طرف اشارہ کیا! وہ روشی کو کچھ لکھوار ہاتھ!... ”میں ڈاکٹر وائسن...“ اس نے ڈکٹیشن جاری رکھا اور روشی کی پنسل بڑی تیزی سے کاغذ پر چلتی رہی!

آومی کو زندگی میں بعض ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں جو زندگی کے آخری لمحات میں بھی ضرور یاد آتے ہیں!

”میں ڈاکٹر وائسن... مرتے وقت... ایک بار یہ ضرور سوچوں گا... سوچوں... سوچوں... سوچوں!“

عمران ”سوچوں-- سوچوں“ کی گردان کرتا ہوا کچھ سوچنے لگا!... روشی کی پنسل رک گئی... وہ پنسل رکھ کر فیاض کی طرف مڑی!

”فرمائیے؟“ اس نے فیاض نے کہا۔

”فرمائیں گے!“ عمران نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ ”ذرا دیکھنا جسر میں ہماری کسی موکلہ کا

ہم منزن فیاض تو نہیں ہے!“

”موکلہ!“ روشی نے حیرت کا اظہار کیا۔

”اوہ... ہاں... اچھا... ڈکٹیشن!“ عمران نے پھر اسے لکھنے کا اشارہ کیا--!

”پلیز...!“ فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا! ”ڈکٹیشن پھر ہوتا رہے گا!“

”کیا بات ہے سو پر فیاض!“ عمران نے حیرت سے کہا۔ ”کیا تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو!“

”تمہاری فرم کے اشتہار میں میرا محکمہ کافی دلچسپی لے رہا ہے!“

”ویری گڈ!“ عمران سر ہلا کر بولا۔ ”تب تو میں اسی سال انکم ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہو جاؤں گا!“

”بکواس مت کرو!“

”سو پر فیاض! میں تمہارا مشکور ہوں گا اگر تم اپنے محکمے کے شادی شدہ افراد کی فہرست مجھے عنایت کر دو!“

”مگر... ہپ... ڈیڈی کا نام اس میں نہ ہونا چاہئے۔“

”آخر اس حرکت کا مطلب کیا ہے!“

”کیسی حرکت!“

”یہی اشتہار!...“

”اشتہار... ہاں اشتہار کیا...؟“

”یہ کیا لغویت ہے... اور تم نے یہاں فارورڈنگ اور کلیئرنگ کا بورڈ لگا رکھا۔“

”یہ شادی اور طلاق کا انگریزی ترجمہ ہے!“

”لیکن تم یہ گنڈا بزنس نہیں کر سکتے!“

”روش... تم دوسرے کمرے میں جاؤ!“ عمران نے روشی سے کہا۔

روش وہاں سے اٹھ گئی!...

”عورت تو زور دار ہے!“ فیاض اپنی ایک آنکھ دبا کر بولا۔

”یہی جملہ تمہاری بیوی تمہارے خلاف عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش کر کے طلاق حاصل کر سکتی ہے!“

”بکواس مت کرو! تم بڑی مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے!“ فیاض نے کہا۔

”کیوں مائی ڈیئر!... سو پر فیاض؟“

”بس یونہی! اسے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا!“

”حکرت غیر قانونی تو نہیں....!“

”غیر قانونی....!“ فیاض کچھ سوچنے لگا! پھر جھلا کر بولا۔ ”دیکھو عمران تم محکمے کے لئے درو
سر بننے والے ہو!“

”باس.... اتنی سی بات!....“

عمران کچھ اور کہنے والا تھا کہ ادھیڑ عمر کی وجیہ عورت کمرے میں داخل ہوئی! اس نے دروازہ
پر ہی رک کر کمرے کا جائزہ لیا.... اور پھر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر بولی!

”میں آپ کا اشتہار دیکھ کر آئی ہوں!“

”اوہ.... اچھا.... مس روشی! اندر تشریف رکھتی ہیں!“ عمران نے کھڑے ہو کر دوسرے
کمرے کی طرف اشارہ کیا....

عورت بلا توقف کمرے میں چلی گئی!

فیاض جو عورت کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میز پر کہنیاں ٹیک کر آگے جھکتا ہوا آہستہ سے بولا۔

”یہ تم کیا کر رہے ہو عمران!“

”بزنس مائی ڈیزیر.... سو پر فیاض!“ عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا۔

”اس عورت کو پہچانتے ہو!“ فیاض نے پوچھا!

”میں شہر کی ساری بوڑھی عورتوں کو پہچانتا ہوں!“

”کون ہے؟“

”ایک بوڑھی عورت۔“ عمران نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ جواب دیا۔!

”کو مت یہ لیڈی تویر ہے۔!“

”تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے!“

فیاض تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر بولا۔ ”آخر یہاں کیوں آئی ہے!“

”نوسر!“ عمران سر ہلا کر بولا۔ ”ہرگز نہیں فیاض صاحب! آپ کو ایسی بات سوچنے کا کوئی
حق نہیں!.... یہ میرا اور میرے موکلوں کا معاملہ ہے!“

”سرتویر کی شخصیت سے شاید تم واقف نہیں ہو! اگر مصیبت میں پھنسنے تو رحمان صاحب
بھی تمہیں نہ بچا سکیں گے!“

”میں اپنے آفس میں صرف بزنس کی باتیں کرتا ہوں!“ عمران برا سامنہ بنا کر بولا۔ ”اگر تم
میرے موکل بننا چاہتے ہو تو شوق سے یہاں بیٹھو ورنہ.... بائے! کیا سمجھے۔ ابھی میں نے کوئی
چپراسی نہیں رکھا ہے اس لئے مجھے خود ہی تکلیف کرنی پڑے گی!“

فیاض اسے غصیلی آنکھوں سے گھورنے لگا! پھر تھوڑی دیر بعد بولا۔

”سنو! یہ رہائشی فلیٹ ہے اور رہائش ہی کے لئے اس کا الاٹمنٹ ہوا تھا! تم اس میں کسی قسم کا
دفتر نہیں قائم کر سکتے۔ سمجھے!“

”یار کیوں خواہ مخواہ گرم ہوتے ہو! جب بیوی کو طلاق دینا ہو تو سیدھے یہیں چلے آنا تم سے
کوئی فیس نہیں لی جائے گی!“

”اچھا میں تمہیں دیکھوں گا!.... یاد رکھو اگر ایک ہفتے کے اندر اندر تم نے یہاں سے دفتر کا
بورڈ نہ ہٹوایا تو خود جھکتو گے!“

”بھگت لوں گا! اب تم جاؤ.... یہ بزنس کا وقت ہے اور میری پارٹنر تم سے کبھی بے تکلف
نہیں ہوگی اس لئے روزانہ ادھر کے چکر کاٹنا، اگر ڈاکٹر نئے میں نہ لکھے تو بہتر ہے!“

عمران نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی اور پھر گڑبڑا کر بولا۔ ”لاحول ولا قوۃ! چپراسی تو ابھی
رکھا ہی نہیں ہے۔ پھر میں گھنٹی کیوں بجا رہا ہوں! یار فیاض ذرا ایک کر دو آنے کے بھنے ہوئے
پنے تو لانا.... لچکا وقت آ رہا ہے.... اور دو پیسے کی ہری مرچیں! پودینہ مفت مل جائے گا! بس
میرا نام لے لینا میں جاتا تو ایک نمائندہ بھی پار کر لاتا.... خیر کوشش کرنا....!“

”تمہیں بچھٹانا پڑے گا۔“

”میں نے ابھی شادی تو نہیں کی!“

”اچھا!“ فیاض بھنا کر کھڑا ہو گیا! چند لمحوں عمران کو گھورتا رہا پھر کمرے سے نکل گیا!

عمران کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی!

تھوڑی دیر بعد روشی اور لیڈی تویر باہر آ گئیں۔

روشی اس سے کہہ رہی تھی۔ ”آپ مطمئن رہیں۔ آپ کو حالات سے باخبر رکھا جائے گا۔!
اور یہاں ساری باتیں راز رہیں گی۔!“

”شکر یہ!“ لیڈی تویر نے کہا اور پردہ قار انداز میں چلتی ہوئی باہر چلی گئی!

روشی چند لمحوں کھڑی مسکراتی رہی۔ پھر اس نے سو سو کے بیس نوٹ بلاؤز کے گریبان سے
نکل کر عمران کے آگے ڈال دیئے!

”ہائیں۔۔ ہائیں!“ عمران نے الووں کی طرح آنکھیں پھاڑ دیں!

”میں ہمیشہ پکا سودا کرتی ہوں!“ روشی اکڑ کر بولی!

”یعنی!.... بیٹھو.... بیٹھو.... کیا پیو گی۔!“

”یہ کون تھا جو ابھی آیا تھا۔!“

”وہ اس کے متعلق معلومات کیوں فراہم کرنا چاہتی ہے!“

”یہ اس نے نہیں بتایا!“

”کچا کام ہے پارٹنر!“ عمران سر ہلا کر بولا۔ ”خیر میں دیکھوں گا!“

”کیا دیکھو گے!“

”یہ ایک..... خیر ہاں دیکھو..... یہ عورت یہاں کی مشہور اور ذی حیثیت شخصیتوں میں سے

ہے.....!“

”لیڈی تو یہ.....!“

”لیڈی.....!“ روشنی نے حیرت سے کہا۔

”ہاں لیڈی! تمہیں حیرت کیوں ہے!“

”اس نے مجھے اپنا نام مسز رفعت بتایا تھا!“

”یہی میں کہہ رہا تھا کہ کچھ گھپلا ضرور ہے!..... خیر! وہ اپنی اصلیت بھی چھپانا چاہتی ہے

اور ایک ایسے آدمی کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتی ہے جو اس کے طبقے کا نہیں ہو سکتا!“

”کیوں تم نے طبقے کا اندازہ کیسے کر لیا!“

”اس کا پتہ!“ عمران سر ہلا کر رہ گیا!

”پوری بات بتاؤ!“ روشنی جھنجھلائی!

”وہ ایک ایسی بستی ہے، جہاں عام طور پر جزدور بستے ہیں.... اور جو تم یہ نمبر دیکھ رہی ہو یہ

کسی عالیشان عمارت کا نمبر نہیں ہے۔ بلکہ ایک معمولی سی کوٹھری کا نمبر ہے جس میں بمشکل تمام

ایک بڑا پلنگ سما سکے گا۔!“

”اؤہ! تب تو.....!“

”تم مجھ سے بھی زیادہ اسحق ہو روشنی..... مگر خیر! پرواہ نہ کرو۔ تم اس پٹے میں بالکل نئی ہو!“

”نہیں عمران ڈیر..... اگر اس میں خطرہ ہو تو..... ہم اس کے ردپے واپس کر دیں!“

”گھاس کھا گئی ہو شاید! روپے واپس کرو گی! بھوکھو مرنے کا ارادہ ہے کیا!“

”بینک میں میرے پانچ ہزار روپے ہیں!“ روشنی بولی۔

”انہیں میرے کفن دفن کے لئے بڑا رہنے دو!“ عمران نے ٹھنڈی سانس لی!

”تم نے استغنیٰ کیوں دیا! واقعی تم الو ہو!“

”کیا تم پھر اپنی پچھلی زندگی کی طرف واپس جانا چاہتی ہو!“

”ہرگز نہیں! یہ خیال کیسے پیدا ہوا۔“ روشنی اسے گھورنے لگی۔

”فکر نہ کرو! ایسے درجنوں آتے جاتے رہیں گے.... ہاں وہ کیا چاہتی ہے!“

”تم کیا سمجھتے ہو.... کیا وہ اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہو گی۔!“

”میں تو یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ.... خیر..... تم اپنی بات بتاؤ!“

”وہ ایک آدمی کے متعلق معلومات فراہم کرنا چاہتی ہے.... دو ہزار پیسگی دیئے ہیں اور بقیہ

تین ہزار مکمل معلومات حاصل کر لینے کے بعد!“

”آہا.... پانچ ہزار.... روشنی! تم نے غلطی کی!..... مجھ سے مشورہ لئے بغیر تمہیں روپے

ہرگز نہیں لینے تھے.... کیا تم نے اسے رسید دی ہے!“

”نہیں کچھ نہیں! اس نے رسید طلب ہی نہیں کی!“

”تفصیل.... روشنی! تفصیل!“

”میرا خیال ہے کہ معاملہ بالکل سیدھا سادہ ہے....“ روشنی بیٹھتی ہوئی بولی!“ وہ اسی شہر

کے ایک آدمی کی مصروفیات کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہے.... اور.... وہ ان معلومات کو

طلاق کے لئے استعمال نہیں کرے گی!“

”وہ آدمی کون ہے!.....“

”تفصیل میں نے لکھ لی ہے!“ اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا!

عمران نے کاغذ لے کر تحریر پر نظریں جمادیں۔

”ہام۔“ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک طویل انگریزی لی.... اور آنکھیں بند کر کے اس طرح

آنگے کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے فون کا ریسیور اٹھانے کا ارادہ ہو! لیکن پھر چونک کر روشنی کی

طرف دیکھنے لگا!

”فون تو لینا ہی پڑے گا! اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا!“

”فون گیا جنم میں.... میں یہاں تنہا سوتی ہوں مجھے خوف معلوم ہوتا ہے! تم رات کو کہاں

رہتے ہو.... پہلے اس کا جواب دو!“

”روشنی! یہ مت پوچھو.... ہم صرف پارٹنر ہیں! ہاں....“ عمران نے سوسو کے دس نوٹ کا

الگ کئے اور انہیں روشنی کی طرف کھسکا تا ہوا بولا۔ ”اپنا حصہ رکھو!..... ہو سکتا ہے کہ بقیہ تین

ہزار ملنے کی نوبت ہی نہ آئے.....!“

”کیوں؟“

”تم نے مجھ سے مشورہ کئے بغیر کیس لے لیا۔ خیر..... ابھی نئی ہو! پھر دیکھیں گے!“

”کیوں کیس میں کیا خرابی ہے!“

”کچھ نہیں! اچھا میں چلا!“ عمران اٹھتا ہوا بولا۔

”کہاں چلے!“

”اس کے لئے معلومات فراہم کروں گا اور ہاں اگر یہاں کوئی پولیس والا آکر ہماری فرم کے متعلق پوچھ گچھ کرے تو اسے میرا کارڈ دے کر کہنا کہ فرم کا ڈائریکٹر یہی ہے۔ مجھے توقع ہے کہ وہ چپ چاپ واپس چلا جائے گا۔“

۴

عمران شاہی باغ کے علاقے میں پہنچ کر ایک جگہ رک گیا، وہ یہاں تک اپنی ٹوسٹر پر آیا تھا۔ گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر کے وہ آگے بڑھ گیا! مزدوروں کی وہ بستی یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی جہاں اسے پہنچنا تھا! اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور وہ حملے سے کوئی ڈاکٹر معلوم ہوتا تھا! وہ کمروں کی ایک قطار کے سرے پر رک گیا۔ جس آدمی کے متعلق اسے معلومات فراہم کرنی تھیں وہ اسی قطار کے ایک کمرے میں رہتا تھا۔

عمران نے کھلے ہوئے کمروں کے دروازوں پر دستک دینی شروع کی لیکن قریب قریب ہر جگہ سے اسے یہی جواب ملا کہ ٹیکے لگ چکے ہیں اس نے دو ایک آدمیوں کے بازو بھی کھلوا کر دیکھے۔ پھر آخر کار وہ اس کمرے کے سامنے پہنچا جس میں وہ آدمی رہتا تھا دروازہ اندر سے بند تھا! عمران نے دستک دی لیکن جواب نہ دارا!..... وہ برابر دستک دیتا رہا۔!

”چلے جاؤ۔۔۔ خدا کے لئے!“ توڑی دیر بعد اندر سے آواز آئی۔ ”کیوں پریشان کرتے ہو مجھے۔ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا!“

”میں ڈاکٹر ہوں!“ عمران نے کہا۔ ”کیا آپ ٹیکہ نہیں لگوائیں گے! یہ بہت ضروری ہے! ہر ایک کے لئے لازمی۔!“

”میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا..... آپ جاسکتے ہیں!“

”اگر آپ کو اس شہر میں رہنا ہے تو آپ ٹیکے کے بغیر نہیں رہ سکتے! کیا آپ نہیں جانتے کہ اس موسم میں ہمیشہ طاعون پھیلنے کا خدشہ رہتا ہے۔!“

اندر سے پھر کوئی جواب نہیں ملا۔

باہر کئی آدمی اکٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بولا۔ ”وہ باہر نہیں آئے گا صاحب!“

”کیوں!“ عمران نے حیرت کا اظہار کیا۔

”وہ کسی سے نہیں ملتا..... بڑے بڑے لوگ کاروں پر بیٹھ کر آیا کرتے ہیں! لیکن وہ انہیں نکالنا جواب دے دیتا ہے!“

”یہ بات ہے..... اچھا..... مجھے اس کے متعلق ذرا تفصیل سے بتائیے! میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے ٹیکہ نہیں لگواتا!“

عمران اس کمرے کے سامنے سے ہٹ آیا وہ لوگ جو اپنے پڑوسی کے متعلق ڈاکٹر کو کچھ بتانا چاہتے تھے بدستور اس کے ساتھ لگے رہے، ایک جگہ عمران رک کر بولا۔ ”اس کا نام کیا ہے!“

”نام تو شاید کسی کو بھی نہ معلوم ہو!“

”وہ کتنا کیا ہے۔“

”یہ بھی نہیں بتایا جاسکتا..... ایک ماہ قبل یہ کمرہ کرائے کے لئے خالی تھا وہ آیا یہاں مقیم ہوا۔ دو تین دن تک تو اس کی شکل دکھائی دی، اس کے بعد سے وہ کمرے میں بند رہنے لگا!..... کوئی نہیں جانتا کہ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے!“

”آپ میں سے کسی نے کبھی اسے دیکھا بھی ہے!“

”قریب قریب سبھی نے دیکھا ہو گا! مگر انہیں ایام میں جب اسے یہاں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا! شروع میں وہ پڑوسیوں سے بھی ملا کرتا تھا۔ لیکن پھر اچانک اس نے خود کو اس کمرے میں مقید کر لیا!“

”بظاہر کیسا آدمی معلوم ہوتا ہے۔“ عمران نے پوچھا!

”بظاہر“ مخاطب کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس نے کہا۔ ”بظاہر وہ انتہائی شریف معلوم ہوتا ہے!“

”حیثیت۔“

”حیثیت وہی! جو ان بستی کے دوسرے آدمیوں کی ہے!“

”لیکن ابھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے ملنے کے لئے بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں!“

”اسی پر تو حیرت ہے! اس کی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ وہ کار رکھنے والوں سے اس حد تک مراہم رکھ سکے!..... لیکن.....!“

”لیکن کیا؟“ عمران مخاطب کو گھورنے لگا!

”کچھ نہیں! یہی کہ وہ ان لوگوں سے بھی ملنا نہیں پسند کرتا! اوہ ذرا دیکھئے! وہ ایک کار ادھر ہی آ رہی ہے..... آپ دیکھئے گا تماشا! وہ لوگ کتنے ملتجیانہ انداز میں اس سے باہر نکلنے کو کہتے ہیں۔“

”بچا بچا سامنے سے ایک کار آ رہی تھی! حالانکہ یہ گلی ایسی نہیں تھی کہ یہاں کوئی اپنی کار

لانے کی ہمت کرتا۔ مگر وہ کار کسی نہ کسی طرح گلی میں گھس ہی پڑی تھی۔

اسٹیرنگ کے پیچھے ایک خوش پوش اور پروقار آدمی بیٹھا نظر آ رہا تھا! کار ٹھیک اس کمرے کے سامنے رک گئی! وہ آدمی کار سے اتر کر دروازے پر دستک دینے لگا! فاصلہ زیادہ ہونے کی بنا پر عمران کمرے کے اندر سے آنے والی آواز نہ سن سکا۔ لیکن وہ دستک دینے والے کو بہ آسانی دیکھ سکتا تھا! اس کی آواز بھی سن سکتا تھا! حقیقتاً اس کا انداز ملتجیانہ تھا!

عمران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا! پھر اس نے اسے دروازے کے پاس سے ہٹتے دیکھا! وہ اپنی کار کی طرف واپس جا رہا تھا!.....

”میں اس کے بھی ٹیکہ لگاؤں گا!“ عمران بڑبڑایا اور پاس کھڑے ہوئے لوگ منہ بند کر کے ہنسنے لگے!.....

عمران انہیں وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا! وہ گلیوں میں گھستا ہوا پھر سڑک پر آگیا!..... اور ٹھیک اس گلی کے سرے پر جا کھڑا ہوا! جس سے اس آدمی کی کار برآمد ہونے کی توقع تھی!

جیسے ہی کار گلی سے نکلی عمران راستہ روک کر کھڑا ہو گیا!

”کیا بات ہے!“ کار والے نے تحیر زدہ لہجے میں پوچھا!

”کیا آپ طاعون کا ٹیکہ لے چکے ہیں!“

”نہیں!..... کیوں؟“

”جب تو میں ٹیکہ لگائے بغیر آپ کو یہاں سے نہ جانے دوں گا! اس بستی میں دو ایک کیس ہو چکے ہیں!“

”آپ کون ہیں؟“ کار والا اسے گھورتا ہوا بولا!

”میڈیکل آفسیر آن آؤٹ ڈور ڈیوٹیز!“ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ ”ہمیں سب کو یہ ٹیکہ لگانے کا حکم ملا ہے۔ انکار کرنے والے پولیس کے حوالے بھی کئے جاسکتے ہیں!“

کار والا ہنسنے لگا!.....

”جانے دیجئے!“ اس نے اسٹیرنگ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا!

”میں زبردستی لگاؤں گا اگر آپ تعرض کریں گے تو میں آپ کی کار میں ہی بیٹھ کر کو توالی تک چلوں گا!“

”چلو“ اس نے لاپرواہی سے کہا پھر اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا۔ ”تم میرا کارڈ لے کر بھی کو توالی جاسکتے ہو! میں وہاں براہ راست طلب کر لیا جاؤں گا!“

عمران نے اس کا تعارفی کارڈ لے کر پڑھا۔ جس پر ”سرتور“ لکھا ہوا تھا!

”سرتور!“ عمران آہستہ سے بڑبڑایا!

”جناب..... آپ میرے خلاف ایک شکایت نامہ تحریر کر کے اس کارڈ کے ساتھ جسے چاہیں بھیج سکتے ہیں! اب اجازت دیجئے!“

کار فرار نے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی!..... عمران ہائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی رگڑ رہا تھا!..... تو یہ سرتور ہے۔۔۔ اس کی بیوی نے اسی پر اسرار آدمی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے دو ہزار نقد دیئے تھے..... اور مزید تین ہزار کا وعدہ تھا..... معاملہ الجھ گیا۔۔۔ عمران کافی دیر تک وہیں کھڑا خیالات میں کھویا رہا۔۔۔

تھوڑی دیر بعد وہ ایک پبلک ٹیلیفون بوتھ میں سرتور کے فون نمبر ڈائل کر رہا تھا!.....

”ہیلو!..... کون ہے..... کیا لیڈی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں..... اوہ..... اچھا آپ ذرا! نہیں مطلع کر دیں..... شکریہ!.....“

عمران چند لمحے خاموش رہا پھر بولا۔ ”ہیلو!..... لیڈی توریہ..... دیکھئے میں روشی اینڈ کمپنی کا ایک نمائندہ ہوں!..... کیا آپ آدھے گھنٹے بعد ٹپ ٹاپ ٹائٹ کلب میں مل سکیں گے..... یہ بہت ضروری ہے!..... جی ہاں!..... بہت ضروری..... آپ کو ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں..... جی ہاں..... جی ہاں..... وہی معاملہ ہے ملیں گی..... شکریہ!“

عمران ریسیور ہک میں لگا کر بوتھ سے نکل آیا!

اب اس کی ٹویسٹر ٹپ ٹاپ ٹائٹ کلب کی طرف جا رہی تھی! سورج غروب ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا!

ٹائٹ کلب میں عمران کو زیادہ دیر تک لیڈی توریہ کا انتظار نہیں کرنا پڑا!..... دونوں ایک ایسے گوشے میں جا بیٹھے جہاں وہ آسانی سے ہر قسم کی گفتگو کر سکتے تھے!

”کیا بات ہے!“ لیڈی توریہ بولی۔ ”میرا خیال ہے کہ میں پہلے بھی کہیں آپ کو دیکھ چکی ہوں!“

”میرے آفس میں ہی دیکھا ہو گا!..... میں روشی کی فرم کا جو نیو بیارٹر ہوں!“

”اوہ..... اچھا..... ہاں میں نے وہیں دیکھا تھا!“ لیڈی توریہ نے سر ہلا کر کہا۔ ”اہم اطلاع کیا ہے!“

”سرتور بھی اس آدمی میں دلچسپی لے رہے ہیں!“ عمران نے بے ساختہ کہا اور لیڈی

تویر کے چہرے پر نظر جمادی۔

”نہیں! لیڈی بری طرح چونک پڑی!

”جی ہاں؟“

لیڈی تویر کا چہرہ یک بیک تاریک ہو گیا! وہ بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی!

”تم کس طرح کہہ سکتے ہو!“

”میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے اس آدمی کے دروازے پر دستک دیتے دیکھا ہے!“

”کیا وہ سر تویر سے ملا تھا!“

”نہیں! وہ کسی سے نہیں ملتا!... اس کا کمرہ ہر وقت بند رہتا ہے میرا خیال ہے کہ ابھی تک

ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی! پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ اس کے دروازے پر کاریں آتی ہیں۔

خوش پوش آدمی اس سے ملنا چاہتے ہیں! لیکن وہ کسی سے بھی نہیں ملتا!“

لیڈی تویر کچھ دیر تک خاموش رہی پھر آہستہ سے بولی۔ ”اگر سر تویر بھی اس میں لپچی

لے رہے ہیں تو اسے یہاں سے چلا جانا چاہئے!“

”لیکن آپ نے میرے دفتر میں اپنا نام اور پتہ غلط کیوں لکھوایا ہے!“ عمران نے پوچھا۔

”اوہ... میں نے غلطی کی تھی... میری مدد کرو! میری نیت میں فتور کوئی نہیں تھا! منٹ

رازداری کے خیال سے میں نے ایسا کیا تھا! ورنہ تمہارے فون پر یہاں دوڑی نہ آتی! صاف کہ

دیتی کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں کسی روشی اینڈ کمپنی سے واقف نہیں!“

”لیکن وہ ہے کون؟“

”یہ نہیں بتا سکتی!... پہلے میں یہ چاہتی تھی کہ اس کے یہاں آنے کا مقصد معلوم کروں!

مگر اب یہ چاہتی ہوں کہ وہ اس شہر ہی سے چلا جائے... کیا تم میری مدد کر سکو گے!... بولو...“

معاوضہ دس ہزار... اور تمہیں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ سر تویر کی رسائی اس تک کیسے ہوئی!

”دیکھئے محترمہ... معاملہ بڑا نیڑھا ہے...“

”کیوں نیڑھا کیوں ہے!“ لیڈی تویر اسے گھورنے لگی وہ اپنی حالت پر قابو پا چکی تھی!

”آپ اس آدمی میں دلچسپی کیوں لے رہی ہیں جب کہ وہ آپ کے طبقے کا بھی نہیں؟“

”دس ہزار کی پیش کش تمہاری شکل دیکھنے کے لئے نہیں ہے!“ لیڈی تویر نے ناخوشگوار

لہجے میں کہا۔

”میں کبھی اس غلط فہمی میں نہیں مبتلا ہوا۔“ عمران مسکرا کر بولا!

”دس ہزار صرف اسی لئے ہیں کہ تم کسی بات کی وجہ پوچھنے کی بجائے کام کرو گے!“

”بہت خوب! اب میں سمجھ گیا! لیکن لیڈی تویر... اگر وہ یہاں سے جانے پر رضامند نہ

ہو تو... اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا!“

”تو اب صورت بھی میں ہی بتاؤں... دس ہزار...“

”نہریئے!... ایک دوسری بات بھی سمجھ میں آرہی ہے!“ عمران نے آہستہ سے کہا۔ چند

لمحے خاموش رہا پھر بولا۔ ”اگر وہ جانے پر رضامند نہ ہو تو دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے!“

”کیا؟“ لیڈی تویر آگے کی طرف جھک آئی!

”اسے قتل کر دیا جائے؟“

لیڈی تویر گہرا کر پیچھے ہٹ گئی! اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں تھیں!

”نہن... نہیں... ہرگز نہیں!“ وہ ہٹکائی!

”پھر سوچ لیجئے! بعض اوقات رازداری کے لئے سب کچھ کرنا پڑتا ہے!“

”کیا مطلب!“ لیڈی تویر بے ساختہ چونک پڑی!

”سر تویر اس میں دلچسپی لے رہے ہیں!“ عمران آہستہ سے بڑبڑایا!

”صاف صاف کہو لڑکے! مجھے پریشان نہ کرو!“

”خبر ہٹائیے! یہ غیر ضروری بات ہے!... مجھے تو صرف اتنا کرنا ہے کہ اسے یہاں سے

کھکا دوں!... اگر نہ جائے تو... بولنے!... ختم کر دیا جائے نا اسے!“

”نہیں... ہرگز نہیں!“

”کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی... اور دس میں صرف پانچ کا اضافہ... پندرہ ہزار میں

معاملہ فٹ۔“

”کیا تم لوگ یہ بھی کرتے ہو!“

”لوگ نہیں صرف روشی!“

”کیا وہ اینگلو بر میز لڑکی!“

”جی ہاں! بس یہ سمجھئے جسے ایک بار دیکھ لیا وہ ہمیشہ کے لئے قتل ہو گیا!“

”کیا کو اس ہے!“

”آہا!... یہی تو آپ نہیں سمجھیں! قتل سے میری مراد یہ تھی کہ روشی اسے اپنے عشق کے

جال میں پھنسا کر یہاں سے ہٹالے جائے گی!“

”خام خیالی ہے اول تو وہ بوڑھا ہے۔ دوئم پختہ کردار کا مالک!... یہ طریقہ قطعی فضول

ثابت ہوگا!“

”عائبا! اس کی آپ ہی کی سی عمر ہوگی!“ عمران نے پوچھا اور غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا! لیڈی تویر نے فوراً ہی جواب نہیں دیا! وہ کافی چالاک عورت تھی! اس نے لا پرواہی سے کہا۔ ”یہ قطعی غیر ضروری سوال ہے!“

”اچھا اب میں کچھ نہیں پوچھوں گا صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ اسے کب سے جانتی ہیں!“

”یہ بھی غیر ضروری ہے۔۔۔!“

”خیر مگر مجھے حیرت ہے کہ سر تویر کی رسائی اس تک کیسے ہوئی!.... اگر وہ.... اسے جاننے ہیں تو پھر آپ کی تنگ و دو فضول ثابت ہوگی!“

”تم مجھ سے کیا اگلوانا چاہتے ہو!“ لیڈی تویر غیر متوقع طور پر مسکرا پڑی!

”یہی کہ یہاں آنے پر اس نے آپ سے ملنے کی کوشش کی تھی یا نہیں!“

”تم غلط سمجھے ہو!....“ لیڈی تویر نے سنجیدگی سے کہا۔ ”یہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس سے مجھے بلیک میلنگ کا خطرہ ہو! اس سے کسی طرح ملو اور اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ تم اسے بتا سکتے ہو کہ یہ لیڈی تویر کی خواہش ہے!“

”اور اگر سر تویر نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ یہیں رہ جائے تو!“ عمران نے پوچھا!

”سر تویر!“ لیڈی تویر کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے!“ میں نہیں سمجھ سکتی

کہ سر تویر اسے کس طرح جانتے ہیں اور اس میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں!“

”اچھا اگر سر تویر کو معلوم ہو جائے کہ آپ بھی اس میں دلچسپی لے رہی ہیں تو ان پر اس کا

کیا رد عمل ہوگا!“

لیڈی تویر چند منٹ عمران کو غور سے دیکھتی رہی پھر بولی۔ ”لڑکے تم بہت چالاک ہو! مگر

اس چکر میں نہ پڑو! ویسے اتنا ضرور کہوں گی کہ سر تویر کی ملاقات اس سے نہ ہونے پائے تو بہتر

ہے.... بس اب جاؤ!.... اس دوران میں اگر کوئی خاص ضرورت پیش آئے تو مجھے فون کر سکتے

ہو!۔۔۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کام کو بہتر طور پر کر سکو گے!“

”صرف ایک بات اور!“ عمران جلدی سے بولا!

”نہیں اب کچھ نہیں!“ لیڈی تویر اپنا پرس اٹھاتی ہوئی بڑبڑائی!

”پہلے آپ صرف اس آدمی کے متعلق....!“

”سٹاپ!“ لیڈی تویر مسکرا کر آگے بڑھ گئی! عمران اسے جاتے دیکھتا رہا۔۔۔!

رات بہت تاریک تھی!.... مطلع شام ہی سے ابر آلود رہا تھا اور اب تو پورا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا تھا! عمران لیڈی تویر کے متعلق سوچتا ہوا اپنی ٹو سیٹر ڈرائیو کر رہا تھا! کچھ ہی دیر قبل اس سے جو باتیں ہوئی تھیں کافی الجھاوے دار تھیں۔ وہ دس ہزار خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور کام صرف اتنا تھا کہ اس گنٹام آدمی کو شہر سے کہیں اور بھیج دیا جائے اور وہ آدمی لیڈی تویر کے طبقے سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔

اس سلسلے میں صرف ایک ہی بات سوچی جاسکتی تھی وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کبھی لیڈی تویر سے اس کے ناجائز تعلقات رہے ہوں.... اور اب اسے اس سے بلیک میلنگ کا خطرہ ہو!

مگر.... یہ خیال بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا! کیوں کہ لیڈی تویر زیادہ پریشان نہیں معلوم ہوتی تھی! حتیٰ کہ سر تویر کے حوالے سے بھی اس نے جو تھوڑی بہت بے چینی ظاہر کی تھی وہ عمران کو مصنوعی ہی معلوم ہوئی تھی! یعنی وہ خواہ مخواہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ سر تویر کو اس آدمی سے واقف نہ ہونا چاہئے!

کیس دلچسپ تھا!.... عمران نے پھر ٹو سیٹر کا رخ شاہی باغ ہی کی طرف موڑ دیا! وہ ایک بار پھر اس پر اسرار آدمی کے کمرے کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کرنا چاہتا تھا!....

کار ایک محفوظ جگہ چھوڑ کر وہ مزدوروں کی بستی کی طرف پیدل چل پڑا۔

یہ بستی اس وقت بالکل تاریک پڑی تھی.... گلیوں میں کہیں کہیں لیمپ کی روشنی کے

دبے نظر آجاتے!.... یہ روشنی بھی ان مزدوروں کے کمروں کی تھی جنہیں شاید لموں میں

رات کی شفٹ پر کام کرنے جانا تھا!....

عمران گلیوں سے گزرتا رہا۔ لیکن کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی! کبھی بکھار ایک

آدھ کتا مضحل سی آوازیں نکالتا اور پھر خاموش ہو جاتا!

وہ اسی گلی میں پہنچ گیا، جہاں اسے جانا تھا!.... پھر وہ اس کمرے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ

ایک اسے ٹھٹھک جانا پڑا۔ کیوں کہ کسی نے کمرے کا دروازہ اندر سے کھولا تھا!

وہ ایک طرف ہٹ گیا.... کسی نے کمرے سے نکل کر دروازہ بند کیا! اس نے اپنے داہنے

ہاتھ میں کوئی وزنی سی چیز لٹکا رکھی تھی پھر عمران نے اسے گلی کے دوسرے سرے کی طرف

جاتے دیکھا! عمران بھی آہستہ آہستہ چلنے لگا! لیکن وہ ایک دیوار سے لپٹا ہوا آگے بڑھ رہا تھا! اس

نے محسوس کر لیا تھا کہ متعاقب چاروں طرف دیکھتا ہوا بہت احتیاط سے قدم بڑھا رہا ہے!

سڑک پر پہنچ کر اس آدمی نے اپنی رفتار تیز کر دی! لیکن یہاں وہ چوروں کی طرف اوجھڑا رہا تھا! اس کا رخ تاگتہ اسٹینڈ کی طرف تھا!

عمران بھی چلتا رہا... اور پھر جب وہ ایک تانگے پر بیٹھ گیا تو عمران نے اپنی کار کی طرف دوڑنا شروع کر دیا جو وہاں سے کافی فاصلے پر تھی... اور تاگتہ مخالف سمت میں جا رہا تھا! کار تک پہنچنے پہنچنے تاگتہ نظروں سے اوجھل ہو گیا! عمران کو بڑی مایوسی ہوئی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری!

کار اشارت کر کے وہ بھی ادھر ہی روانہ ہو گیا جدھر تاگتہ گیا تھا! اسے یقین تھا کہ اگر تانگہ کسی نواحی بستی میں نہ مڑ گیا تو وہ اسے ضرور جالے گا۔

سڑک سنسان پڑی تھی۔ آگے چل کر کار کی اگلی روشنی میں ایک تانگہ دکھائی دیا!... لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ وہی تانگہ رہا ہو جس کی اسے تلاش تھی... اس نے کار کی رفتار تیز کر دی!

ساتھ ہی اس نے محسوس کیا کہ تانگہ کی رفتار پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے... اور پھر ایک بڑے دفعتاً تانگہ رک گیا!... سڑک پر آگے چڑھائی تھی... اور تانگہ کار سے زیادہ اونچی جگہ پر تھا! اچانک وہ کار کی روشنی میں آگیا اور عمران نے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کی شکل اچھی طرح دیکھ لی!... لیکن لباس سے وہ کوئی مزدور یا کم حیثیت کا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا! جسم پر ایک بڑے کوٹ تھا اور سر پر فلٹ بیٹ... ڈاڑھی سے معمر معلوم ہوتا تھا کیوں کہ وہ بالکل سفید تھی! اس نے جلدی سے فلٹ بیٹ کا گوشہ چہرے پر جھکا لیا اور کوٹ کے کالر کھڑے کر لئے... شاید گھوڑے کے ساز میں کوئی خرابی آگئی تھی۔ جسے تانگہ والا نیچے کھڑ اور ست کر رہا تھا!

عمران نے رفتار اور کم کر کے خواہ مخواہ ہارن دینا شروع کر دیا! حالانکہ وہ کتھرا کر بھی نکل سکتا تھا!۔۔۔ مقصد دراصل یہ تھا کہ وہ کوچوان اور سوار کو دھوکے میں رکھ کر تانگے کے قریب پہنچ جائے۔

”او بے تانگے والا... خرگوش کی اولاد!“ عمران تانگے کے قریب پہنچ کر گرجا!

”صاحب بہت جگہ ہے!“ تانگے والے نے کہا!

”کدھر جگہ ہے...!“ عمران کار سے اتر کر چیخا! ”بڑھاؤ... سڑک کے نیچے اتار دو!“

وہ تانگے کی پچھلی سیٹ کے قریب پہنچ چکا تھا!

”یہ تو زبردستی کی بات ہے جناب!“ تانگہ والا بھی جھلا گیا!

عمران پچھلی سیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا آہستہ سے بولا۔ ”سرکار مجھے لیڈی تویر نے بھیجا ہے!“

بوڑھا کھانس کر رہ گیا۔

”میں آپ ہی سے عرض کر رہا ہوں!“ عمران نے کہا۔

لیکن دوسرے ہی لمحے میں کوئی ٹھنڈی سی چیز اس کی پیشانی سے آگئی!

”پیچھے ہٹ جاؤ!“ بوڑھا آہستہ سے پرسکون آواز میں بولا!

”مورینا سلاٹو کوکتیوں کی موت مرنا پڑے گا۔ یہ بوڑھے غزالی کا فیصلہ ہے!“

”لیکن میں نے کیا قصور کیا ہے۔ چچا غزالی!“ عمران نے سعادت مندانہ انداز میں کہا۔

”تمہارا کوئی قصور نہیں ہے... اسی لئے تو ٹریگر اپنی جگہ پر ہے... ورنہ تمہاری کھوپڑی

میں ایک رنگین سا سوراخ ہو جاتا!“

”اور میں اسے دیکھ کر خوش نہ ہو سکتا!“ عمران نے ایک طویل سانس لی... اتنے میں تانگے

والے نے آگے بڑھنا چاہا۔ لیکن بوڑھے نے اسے روک دیا!

”مورینا سے کہہ دو... کہ غزالی بچہ نہیں ہے!“

”میں کسی مورینا کو نہیں جانتا چچا غزالی! مجھے تو لیڈی تویر نے بھیجا ہے! اگر انہی کا نام مورینا

ہے... تو مجھے مونا باؤریلو سے اسٹیشن تک بیڈل جانا پڑے گا...!“

”لیڈی تویر...!“ بوڑھا آہستہ سے بڑبڑایا!... ”لیڈی تویر...!“

ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ یاد کرنے کے لئے اپنے ذہن پر زور دے رہا ہو!

”سر تویر کی بیوی تو نہیں!“ اس نے پوچھا!

”آپ سمجھ گئے نا! دیکھئے میں نہ کہتا تھا... ہا!“

”لیکن اس نے کیوں بھیجا ہے!“

”بس سمجھ جائیے!“ عمران ہنسنے لگا!

”کیا سمجھ جاؤں!“

”وہی نا! جو لیڈی تویر آپ سے چاہتی ہیں۔۔۔!“

”میں کیا بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا چاہتی ہے!“ بوڑھا بولا۔

”وہ چاہتی ہیں کہ آپ اس شہر سے چلے جائیے!“

”آہ۔۔۔ میں سمجھا!“ بوڑھے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ”لیکن اسے فکر مند نہ ہونا

چاہئے! اس سے کہہ دینا کہ غزالی اپنے ایک ذاتی کام سے یہاں آیا تھا جس دن ہو گیا... یہاں

سے چلا جائے گا! وہ یہاں رہنے کے لئے نہیں آیا!“

”مگر۔۔۔ آپ سر تویر سے ملتے کیوں نہیں!“ عمران نے پوچھا!

”میں نہیں جانتا تھا کہ وہ یہیں رہتا ہے! لیڈی تویر سے کہہ دینا! غزالی دل کا برا نہیں

ہے.... اچھا اب تم جا سکتے ہو!۔۔۔!

بوڑھے نے ریوالور کی نالی اس کی پیشانی سے ہٹائی۔

”مگر چچا! سرتویر تو برابر آپ کے کمرے کا دروازہ پینتے رہے ہیں!“

”سرتویر!“ بوڑھے کے لہجے میں حیرت تھی!

”ہاں چچا غزالی....!“

”میں نہیں سمجھ سکتا!“ بوڑھا بڑبڑا کر رہ گیا....

”سرتویر آپ سے کیا چاہتے ہیں!“

”بس جاؤ....! جو کچھ میں نے کہا ہے لیڈی تویر کو کہہ دینا!....! تا نگہ بڑھاؤ!“

گھوڑے کی ٹاپیں سنائے میں گونجنے لگیں.... اور عمران نے چلا کر پوچھا۔ ”چچا غزالی تمہارے

پاس ریوالور کا لائسنس تو ہو گا ہی!“

”ہاں سہتیجے.... تم مطمئن رہو!“ بوڑھے کی آواز آئی.... تا نگہ کافی دور نکل گیا تھا!

۷

دوسری صبح کے اخبارات الفریڈ پارک میں کسی ادھیڑ عمر آدمی کی لاش برآمد ہونے کی کہانی سنارے

تھے۔ پولیس کا نظریہ اور دیگر تفصیلات نمایاں طور پر شائع ہوئی تھیں۔ عمران اپنے طلاق آفس میں اداس

بیٹھا تھا....! روشنی دوسرے کمرے سے نکل کر غالباً چائے کا پیکٹ لینے کے لئے باہر جانے لگی....

عمران نے بڑی پھرتی سے اپنی داہنی ٹانگ آگے بڑھا دی! روشنی بے خبر تھی اس لئے پیٹ کے بل دھڑام

سے فرش پر جاگری! ساتھ ہی اس کے منہ سے عمران کے لئے کچھ ناشائستہ قسم کے جملے نکل گئے!

مگر عمران نے کچھ اس طرح گردن ہلا کر ”ٹھیک ہے“ کہا جیسے اس نے روشنی کے الفاظ نہ

ہی نہ ہوں! وہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہونٹ سکڑے اسے دیکھ رہا تھا....! روشنی کے فرش سے

اٹھتی ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔

”تم بالکل جنگلی ہو!“ روشنی پیرخ کر چیخیں۔

”سب ٹھیک ہے جاؤ!“ عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔

”نہیں جاؤں گی!“ روشنی نے روہانسی آواز میں کہا اور پھر کمرے میں واپس چلی گئی۔

عمران نے بڑے مغموم انداز میں اپنے سر کو خفیف شی جنبش دی اور سامنے پھیلے ہوئے اذیہ

کی طرف دیکھنے لگا!

کچھ دیر بعد اس نے روشنی کو آواز دی!

”نہیں آؤں گی!“ روشنی نے دوسرے کمرے سے للکارا۔ ”تم جہنم میں جاؤ!“

”مجھے راستہ نہیں معلوم روشنی ڈیز....! ورنہ کبھی کا چلا گیا ہوتا....! تم میری بات تو سنو!“

”نہیں سنوں گی! مجھ سے مت بولو!“

عمران کو اٹھ کر اسی کمرے میں جانا پڑا جہاں روشنی تھی!....! وہ مسہری پر اوندھی پڑی ہوئی

نظر آئی....!

”آخر بات کیا ہے!“ اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔

”چلے جاؤ یہاں سے! شرم نہیں آتی....! عورتوں سے اس قسم کا مذاق کرتے ہو! بالکل جنگلی ہو!“

”اب موقع پر کوئی اور نہ ملے تو میں کیا کروں!“ عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ ”ویسے میں

حتی الامکان یہی کوشش کرتا ہوں کہ عورتوں سے یہ کیا....! کسی قسم کا بھی مذاق نہ کروں!“

”یہاں سے چلے جاؤ!“ روشنی اور زیادہ جھلا گئی!

”تم کہتی ہو تو چلا جاؤں گا! ویسے میں تم سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ بھینز کے بچے کو مینا کہتے ہیں

یا بھینس کے بچے کو....! اور آدمی کے بچے کو صرف بچہ کیوں کہتے ہیں۔ آدمی کیوں نہیں کہتے!“

روشنی اٹھ بیٹھی!....! چند لمحے عمران کو گھورتی رہی پھر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ باہر سے کسی

نے دروازے پر دستک دی! بیرونی دروازہ بند تھا۔

”کون ہے!“ عمران نے بلند آواز میں پوچھا!

”میں ہوں فیاض!“

”تم آگے بیٹا!“ عمران آہستہ سے بڑبڑاتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا!

دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحہ کے لئے رکا!....! پھر ایک طرف ہٹ کر دروازہ

کھول دیا....!

جیسے ہی فیاض اندر داخل ہوا عمران کی داہنی ٹانگ اس کے پیروں میں الجھ گئی....! اور فیاض

بے خبری میں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔۔۔!

لیکن! وہ دوسرے ہی لمحہ میں الٹ کر عمران پر آپڑا....! یہ اور بات ہے کہ اس حرکت سے

بھی تکلیف اسی کو ہوئی ہو کیوں کہ اس کا گھونٹہ عمران کی بجائے دیوار پر پڑا تھا! عمران ایک

طرف ہٹ کر للکارا۔ ”آپ کے لئے چائے لاؤ....!“

”چائے کے بچے! یہ کیا حرکت تھی!“ فیاض نے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا!

”ہائیں....! ہائیں....!“ عمران آہستہ سے بولا۔ ”وہ دیکھ رہی ہو گی!“

فیاض نے اضطرابی طور پر اس کا گریبان چھوڑ دیا اور بوکھلا کر دوسرے کمرے کی طرف

دیکھنے لگا روشی سچ سچ درد وازے میں کھڑی دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی!

”اوہو..... روشی!“ عمران جلدی سے بولا۔ ”ان سے ملو..... یہ فیٹین کیاش..... ار لاجول کیٹین فیاض ہیں! میرے گہرے دوست!ہا..... اور یہ میری پارٹنر روشی..... سینئر پارٹنر سمجھو! کیوں کہ روشی اینڈ کو.....! ہپ!“

فیاض نے جلدی میں دو چار رسمی جملے کہے اور کرسی میں گر کر ہانپنے لگا وہ اب بھی عمران کو تو آلود نظروں سے گھور رہا تھا!

”روشی!“ عمران بلند آواز میں بڑبڑایا۔ ”اب تو چائے کا انتظام کرنا ہی پڑے گا! یہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ سی بی آئی کے سپرنٹنڈنٹ.....!“

”اوہو!“ روشی مسکرا کر بولی۔ ”آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔“

”مجھے بھی!“ فیاض جو اب مسکرایا۔

عمران نے اردو میں کہا۔ ”فیاض صاحب خیال رہے کہ میں طلاق دلوانے کا دھندا کرتا ہوں۔ ذرا اپنی مسکراہٹ ٹھیک کرو..... ہونٹوں کے گوشے کپکپا رہے ہیں اور یہ جنسی لگاؤ کی علامت ہے..... یقین مانو میں تمہاری بیوی سے ایک پیسہ فیس نہیں لوں گا! تم کیس بھی تو دلو! او..... ایسی خدمت کروں گا کہ طبیعت خوش ہو جائے تمہاری!“

فیاض کچھ نہ بولا! عمران کے خاموش ہوتے ہی روشی نے پوچھا! ”کیوں کیٹین..... سی بی آئی میں عمران کا کیا عہدہ تھا!“

”میرا ماتحت تھا!“ فیاض نے اکر کر کہا۔

”ارے خدا غارت کرے.....!“ عمران بڑبڑایا۔ ”اچھا میں تم سے کچھ لوں گا!“

روشی ہنستی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی!

”ہاں اب بتاؤ!“ فیاض آستین چڑھانے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ ”کسی دن میں تمہاری سخی نکال دوں گا!“

”سخی نہیں پھانی کہو! میں پھان ہوں! سمجھے۔“

”تم کوئی بھی ہو! لیکن یہ کیا حرکت تھی... آخر کب تک تمہارا بچپنا برداشت کیا جائے گا!“

”تم کیٹین فیاض..... تم اسے بچپنا کہہ رہے ہو! مجھے حیرت ہے! اگر تم شر لاک ہو مزے زمانے میں ہوتے تو تمہیں گولی مار دی جاتی اور بالکل شر لاک ہو مزہ ہی کی طرح جانتا ہوں تم ان وقت یہاں کیوں آئے ہو!“

”کیوں آیا ہوں؟“ فیاض نے پوچھا!

”میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کس طرح آئے ہو!“

”کس طرح آیا ہوں!“

”سر کے بل چلتے ہوئے! اب پوچھو ڈاکٹر ڈائنسن کہ یہ بات میں نے اتنے وثوق کے ساتھ بتیوں کہی ہے! جواب یہ ہے پیارے ڈائنسن کہ مجھے تمہارے بالوں میں کچھ نئے مٹھے تنکے نظر آ رہے ہیں! ہا..... دیکھا ہے نا یہی بات.....!“

”بور مت کرو۔“ فیاض نے براسا منہ بتایا۔ ”میں ایک ضروری کام سے تمہارے پاس آیا ہوں!“

”میں آج کا اخبار پورا پڑھا چکا ہوں!“ عمران سنجیدگی سے بولا حتیٰ کہ وہ اشتہارات بھی پڑھ ڈالے ہیں جنہیں شادی شدہ آدمیوں کے علاوہ اور کوئی شریف آدمی نہیں پڑھتا!“

”تو تم سمجھ گئے!“ فیاض مسکرایا۔

”میں بالکل سمجھ گیا..... نہ صرف سمجھ گیا بلکہ کام بھی شروع کر دیا ہے!“

”کیا مطلب!“

”مطلب میں ضرور بتاتا مگر اسی صورت میں اگر گھونہ دیوار پر پڑنے کی بجائے میرے جڑے پر پڑا ہوتا..... خیر..... ہو گا مجھے کیا..... جو بوئے گاسو کانے گا..... اور لاد چلا ہے بخارا والی مثل تھی! فیاض صاحب! ہپ..... ارے..... روشی..... چائے!“

”نہیں میں چائے نہیں پیوں گا!“

”حالانکہ تم بچھلی رات سے اب تک جاگتے رہے ہو اور ابھی تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا! روشی کلفت بڑے اچھے بناتی ہے! حالانکہ ابھی وہ بھی اسی فرش پر اوندھے منہ گر چکی ہے!“

”وہ بھی!“ فیاض نے حیرت سے دہرایا۔ ”عمران تم آدمی ہو یا جانور.....“

”وہ بھی اس وقت سے متواتر یہی ایک سوال دہرا رہی ہے!“ عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ ”میں خود کو ہر طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا خواہ وہ ایک اینگلو بریز لڑکی ہو! خواہ کیٹین فیاض اور اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ اس لاش کے متعلق تم لوگوں کا نظریہ قطعی غلط ہے۔“

”کیا مطلب!“ فیاض سنبھل کر بیٹھ گیا۔

”تمہارا یہی نظریہ ہے کہ مرنے والا کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گرا..... اس کی پیشانی میں چوٹ آئی..... اور کوئی زہر یلا مادہ اتنی تیزی سے زخم کے راستے خون میں سرایت کر گیا کہ مرنے والے کو اٹھنے کا بھی موقع نہ ملا..... میں یہ نہیں کہتا کہ موت کے متعلق ڈاکٹروں کی رائے غلط ہے! اس طرح کسی کا مر جانا بعید از قیاس نہیں! لیکن یہ خیال کہ وہ ٹھوکر کھا کر گرا..... اور اس کی پیشانی زخمی ہو گئی! مگر نہیں ٹھہر دیا اس کی لاش کسی ایسی جگہ ملی ہے جہاں کی زمین

ہموار نہ ہو!... یا کرنے کی صورت میں اس کا سر کسی ایسی چیز سے جا لکرایا ہو جو زمین کی سطح سے اونچی ہو!

”نہیں!... لاش الفریڈ پارک کی ایک روش پر ملی تھی! اور وہاں دور، دور تک کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو زمین کی سطح سے اونچی ہو... اور ظاہر ہے کہ روشیں بھی تاہموار نہیں ہوتیں!“

”تب مری جان یہ بتاؤ کہ تمہاری پیشانی کیوں زخمی ہوئی... اور روشی بھی بے دائرہ پیشانی لئے گھوم رہی ہے۔ تم دونوں ہی بے خبری میں کافی دور سے گئے تھے!... بتاؤ!“

فیاض پلکیں چھپکانے لگا۔!

”میرا دعویٰ ہے اگر اس وقت تم دونوں کے نزدیک کوئی دیوار یا کرسی یا درخت کا تانا ہوتا تو یقیناً تمہاری پیشانیاں زخمی ہو جاتیں!“

”بات تو ٹھیک ہے! مگر کیوں؟“

”فطرت! اپنی حفاظت آپ کرنے کی جبلت! جب ہم منہ کے بل گرتے ہیں تو غیر ارادی طور پر ہماری ہتھیلیاں یا کہنیاں زمین سے ٹک جاتی ہیں! اس طرح فطرت خود ہی ہم سے ہمارے جسم کے بہترین اور سب سے زیادہ کارآمد لیکن کمزور حصوں کی حفاظت کراتی ہے!“

”یاد بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو!“ فیاض سر ہلا کر بولا!

”روش چائے۔!“ عمران نے پھر بانک لگائی اور پھر آہستہ سے بولا۔ ”یار ایک آدھ کس لاؤ! اس شہر کی عورتیں بڑی بے حس معلوم ہوتی ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کم از کم ایک ماد تک روزانہ اشتہار دیتا رہوں کیا خیال ہے!“

”عمران تم اسے بیوقوف بنانا جو تمہیں احمق سمجھتا ہو!“

”اسے بھلا میں کیا بیوقوف بنا سکوں گا!“

”میں اس لئے آیا تھا کہ تم لاش دیکھ لیتے!“

”کیا وہ اب بھی جائے واردات پر ہے!“

”نہیں! مردہ خانے میں ہے! ابھی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا؟“

”جب وہ موقع واردات سے ہٹالی گئی ہے تو دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا!“

”تم چلو تو۔۔۔ ناشتہ کہیں اور کریں گے!“

”وہ تو ٹھیک ہے! مگر کھائیں گے کہاں سے! بھلا تمہارے اس کیس میں مجھے کیا مل جائے گا!“

”بس اٹھو... بور مت کرو!... اس وقت تم پر غصہ تو بہت آ رہا تھا... مگر خیر اس گرنے کے سلسلے میں ایک کام کی بات معلوم ہوئی! مگر تم نے اس بے چاری کو بھی گرایا تھا!“

”سیا کرتا... مجبوری تھی... تجربہ تو کرنا ہی تھا!“

”بڑے سور ہو!“

”آج... چھا!“ عمران اٹھتا ہوا بولا۔ ”میں چلوں گا... مگر یہ نہ بھول جانا کہ میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا... اور ہاں پہلے ہم الفریڈ گارڈن چلیں گے؟“

عمران جانتا تھا کہ روشی اس وقت ناشتہ ہرگز تیار نہیں کرے گی! اس لئے فیاض سے شرمندگی اٹھانے سے یہی بہتر ہے کہ یہاں سے کہیں ٹل جائے!

باہر آکر انہوں نے ایک چھوٹے سے ریسٹوران میں ناشتہ کیا اور الفریڈ گارڈن کی طرف روانہ ہو گئے!...

”ہاں۔ کل وہ لیڈی تویر کیوں آئی تھی؟“ فیاض نے پوچھا!

”کہنے کے لئے اگر سر تویر ہماری فرم کی خدمت حاصل کرنا چاہے تو اسے فوراً مطلع کر دیا جائے۔ غالباً لیڈی تویر طلاق نہیں لینا چاہتی!“

”بکو اس سے! تم بتانا نہیں چاہتے!“

”بھلا میں تمہیں اپنے بزنس کی باتیں کیسے بتا سکتا ہوں!“

وہ الفریڈ گارڈن پہنچ گئے... اور پھر فیاض اسے اس جگہ لے گیا جہاں لاش پائی گئی تھی۔

”یہی جگہ ہے ٹھیک یہیں پر لاش ملی تھی!“

”اوندھی پڑی تھی!“ عمران نے پوچھا!

”ہاں!...“

”لیکن اتنی جلدی یہ کیسے معلوم کر لیا گیا کہ وہ کوئی زہریلا مادہ تھا جو پیشانی کے زخم کے ذریعہ جسم میں سرایت کر گیا!“

”پھر اور کیا کہا جاسکتا ہے! اس کے علاوہ جسم پر اور کوئی نشان نہیں! گلا گھونٹ کر بھی نہیں مارا گیا!“

”تم نے یہاں سے سرخ بجزریاں تو ضرور سمیٹی ہوں گی!“

”کیوں!... نہیں تو...!“

”یار تم محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹنڈنٹ ہو!... یا...!“

”میں گدھا ہوں اور تمہیں اس سے کوئی سروکار نہ ہونا چاہئے! میں نے اسے ضروری نہیں سمجھا تھا کہ یہاں سے بجزریاں سمیٹی جائیں۔ کیونکہ مجھے بھی اس پر یقین نہیں ہے کہ وہ یہیں اور اسی جگہ نہ مرا ہوگا! آخر وہ کتنا سریع الاثر زہر تھا کہ مرنے والا گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش

نہیں کر سکا! لاش کو میں نے یہاں پڑا دیکھا تھا!... اس کی پوزیشن تو صاف یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ گرنے کے بعد بل بھی نہ سکا ہو گا!"

"ویری گڈ!... پھر تم مجھے کیوں لائے ہو!"

"میں جانتا ہوں کہ لاش یہاں پھینکی گئی ہوگی!... موت کہیں اور واقع ہوئی ہوگی!"

"اب بہت زیادہ عقل مند بننے کی کوشش مت کرو!" عمران مسکرا کر بولا۔ "اس کی موت یہاں بھی واقع ہو سکتی ہے اور وہ اسی جگہ گر کر مر بھی سکتا ہے۔"

"بات کا بنگلز میں بھی بنا سکتا ہوں!"

"اچھا میں بات بناتا ہوں تم بنگلز بنانے کی کوشش کرو!... فیاض صاحب!... یہ الزمیا گارڈن ہے... اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہاں سانپ مکثرت ہیں... فرض لیجئے اسے سانپ نے کاٹا ہو!... ابھی پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا... زہر والی بات عقلی گڈ بھی ثابت ہو سکتی ہے!... وہ تو کہو کہ میں نے اس وقت ناشتہ بھی تمہارے پیسوں سے کیا ہے اور بتاتا... مجھے خواہ مخواہ یہاں تک دوڑایا ہے تو اب لاش بھی دکھا دو!"

"بہر حال تم مجھ سے متفق نہیں ہو!"

"لاش کا پوسٹ مارٹم ہو جانے دو اس کے بعد دیکھا جائے گا!"

پھر اس سلسلے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور وہ سرکاری مردہ خانے کی طرف روانہ ہوئے!

لاش غالباً پوسٹ مارٹم کے لئے لے جانی جانے والی تھی کیوں کہ مردے دھونے والی گاڑی کپاؤنڈ میں موجود تھی فیاض نے عمران کو دکھا دے کر آگے بڑھایا!

اور پھر مردہ خانے میں پہنچ کر فیاض نے جیسے ہی لاش کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا عمران کی

آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں... وہ بڑی تیزی سے لاش پر جھک پڑا!... تھوڑی ہی دیر میں

اسے یقین ہو گیا کہ وہ لاش اس بوڑھے کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جس کا پچھلی رات

تقاب کر چکا تھا!

"یہ پیشانی کا زخم دیکھو!" فیاض نے کہا!

"دیکھ رہا ہوں!... عمران سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ "مجھے تو اس میں کوئی خاص بات نظر

نہیں آتی!"

"ہوں! اچھا، خیر پرواہ نہیں... اب تم بہت مغرور ہو گئے ہو!" فیاض نے ناخوشگوار لہجے

میں کہا۔ "تم سمجھتے ہو شاید دنیا میں تم ہی سب سے زیادہ عقل مند ہو۔"

"نہیں تو... میرا خیال ہے کہ تم نہ تو عقلمند ہو اور نہ مغرور... چلو چھوڑو!... جسم بنا کر

گیا ہے!... زہر ہی ہو سکتا ہے... پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی بتا سکے گی کہ زہر جسم میں کیوں کر داخل ہوا... لہذا رپورٹ ملنے تک اگر ہم اس معاملے کو ملتوی ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے!"

"ویسے کیا اس کے جسم پر لباس موجود ہے!..."

"نہیں... لباس... لیبارٹری میں ہے!"

"لیبارٹری میں کیوں!"

"شبہ ہے کہ کپڑوں پر سے لائڈری کے نشانات مٹانے کی کوشش کی گئی ہے!"

"آہا...! عمران کچھ سوچنے لگا! پھر آہستہ سے بولا۔ "کیا اس کی جیب سے کچھ کاغذات

وغیرہ بھی برآمد ہوئے ہیں!"

"کمال کرتے ہو! جن لوگوں نے نشانات مٹائے ہیں انہوں نے کاغذات وغیرہ کیوں

چھوڑے ہوں گے!"

"نشانات ادا ہو... ہو سکتا ہے کہ نشانات خود مرنے والے ہی نے اپنی زندگی میں مٹائے ہوں!"

"اچھا بس ختم کرو!" فیاض نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ "ورنہ ابھی یہ بھی کہو گے کہ مرنے والا

پرنس آف ڈنمارک تھا!"

وہ دونوں مردہ خانے سے باہر آگئے!

"اچھا میں چلا!" عمران نے کہا۔ "پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے مجھے مطلع کرنا!"

"اگر ضرورت سمجھی گئی!" فیاض بولا! اس کے لہجے میں بھی کبیدگی موجود تھی۔

"مجھ سے الجھو گے تو سر پکڑ کر رونا پڑے گا!... جانتے ہو کہ میری فرم کس قسم کا کاروبار

کرتی ہے!"

اتنے میں وہاں مردے خانے کا انچارج آ پہنچا!... اس نے فیاض سے گفتگو شروع کر دی!

اور عمران وہاں سے ہٹ کر اس جگہ آیا جہاں فیاض کی موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔

اس نے نہایت اطمینان سے اسے اشارت کیا فیاض نے دیکھا اور صرف منہ پھیلا کر رہ

گیا!... مردہ خانے کے انچارج کے سامنے وہ بے تحاشہ دوڑ بھی تو نہیں سکتا تھا!... وہ بے بسی

سے عمران کی اس حرکت کو دیکھتا رہا موٹر سائیکل فراتے بھرتی ہوئی کپاؤنڈ سے نکل گئی!

۸

تھوڑی دیر بعد عمران لیڈی تویر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا!

"تم یہاں کیوں چلے آئے!" لیڈی تویر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا!

وہ کن لوگوں سے خائف تھا.... اور وہ.... وہ....
 عمران اپنا سر سہلانے لگا! اسے وہ نام یاد نہیں آ رہا تھا جس کا حوالہ پچھلے رات دوران گفتگو
 میں غزالی نے دیا تھا!... ایسا نام جو کسی عورت ہی کا ہو سکتا تھا.... اطالوی طرز کا نام....
 ”میں نہیں جانتی کہ وہ کن لوگوں سے خائف تھا!.... مگر.... ٹھہرو.... تم بہت چالاک
 ہو.... مجھے یقین ہے کہ غزالی زندہ ہے تم مجھ سے میرا راز اگھوانا چاہتے ہو!“
 ”کیا آپ نے آج کا اخبار نہیں دیکھا!“

”دیکھا ہے! مگر تم ایک دوسرے معاملے کو بھی اس سلسلے میں استعمال کر سکتے ہو!....
 ”ہاں ہو سکتا ہے!.... شاید میں نام بھی غلط بتا رہا ہوں!“
 ”نہیں نام ٹھیک ہے! تم اس سے مل چکے ہو گے!“
 ”اگر آپ لاش دیکھنا چاہتی ہوں تو میں پوسٹ مارٹم رکوادوں!“
 ”ہاں میں دیکھوں گی!....“ لیڈی تویر نے ایسے لہجے میں کہا جس سے یہ مترشح ہو رہا تھا کہ
 اسے عمران کی بات پر یقین نہیں آیا!

”اچھی بات ہے!.... کیا آپ مجھے اپنا فون استعمال کرنے کی اجازت دیں گی؟“
 ”نہیں!-!“

”اچھا تو میرے ساتھ چلے“
 ”نہیں جاؤں گی.... تم شوق سے میرے متعلق پولیس کو اطلاع دے سکتے ہو! تم مجھے بلیک
 میل نہیں کر سکتے سمجھے! ہو سکتا ہے کہ آدمی جو تمہارے دفتر میں اس دن موجود تھا سی بی آئی کا
 آفیسر رہا ہو! میں تمہاری اطلاع کے لئے بتاتی ہوں کہ سی بی آئی کے ڈائریکٹر جنرل رحمن
 صاحب میرے گھرے دو ستوں میں سے ہیں!“

”تب تو میں ضرور آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کرادوں گا! کیوں کہ رحمن صاحب
 میرے گھرے دو ستوں میں سے ہیں! انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اس لئے مجبوراً مجھے
 فارورڈنگ اینڈ کلیرنگ بیورو پر قائم کرنا پڑا!“

”اچھا شاید تم غلط سمجھے ہو! میں ابھی تمہاری موجودگی میں انہیں فون کرتی ہوں!“
 ”ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ بلیک میل علی عمران ایم ایس سی، پی ایچ ڈی ہے!“
 ”علی عمران!“ لیڈی تویر چونک کر اسے گھورنے لگی! ”علی عمران!.... تم کبواں کر رہے ہو!
 یہ رحمن صاحب کے لڑکے کا نام ہے اور وہ بھی اسی جھگڑے میں....“

”کبھی تھا!....“ عمران نے جملہ پورا کرتے ہوئے کہا۔ ”لیکن ڈائریکٹر جنرل صاحب نے

”آخری اطلاع دینے کے لئے!“ عمران اس کا چہرہ بخور دیکھ رہا تھا!
 ”میں نہیں سمجھی!“ لیڈی تویر کی آواز میں کپکپاہٹ تھی!
 ”غزالی چلا گیا!“

”اوہ.... اچھا!“ لیڈی تویر ایک طویل سانس لے کر بیٹھتی ہوئی بولی! ”اچھا.... تو تمہاری
 بقیہ رقم پر سوں تک پہنچا دی جائے گی!“
 ”لیکن اب میں رقم لے کر کیا کروں گا!“ عمران نے مغموم لہجے میں کہا!
 ”کیوں؟“

”اس بے چارے کا پورا جسم نیلا پڑ گیا ہے اور شاید اس وقت ڈاکٹروں کے چاقو اس کے
 گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہوں!“
 ”میں کچھ نہیں سمجھی تم کیا کہہ رہے ہو!“
 عمران نے اسے واقعات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ ”سر تویر بھی اس میں دلچسپی لے رہے
 تھے! لیکن پولیس کو ابھی اس کا علم نہیں ہے! ایسے اب میرا ارادہ ہے میں پولیس کو اس سے مطلع
 کردوں!“

لیڈی تویر تھوڑی دیر تک چپ چاپ ہانپتی رہی پھر بدقت بولی۔ ”تو اب تم مجھے بلیک میل
 کرنا چاہتے ہو! تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے لئے اسے قتل بھی کر سکتے ہو!“

”اچھی بات ہے! جب پولیس آپ سے پوچھ گچھ کرے تو آپ بتا دیجئے گا.... کہہ دیجئے
 گا.... کہہ دیجئے گا کہ میں نے ہی اسے قتل کیا ہے! پھر پولیس مجھ سے پوچھے گی تو میں صاف
 کہہ دوں گا کہ مجھے اس پر لیڈی تویر نے مجبور کیا تھا.... پھر لیڈی تویر کو بتانا پڑے گا کہ انہوں
 نے کیوں مجبور کیا تھا! وہ کیوں چاہتی تھیں کہ غزالی یہاں سے چلا جائے اور اتنے سے کام لے
 لئے انہوں نے اتنی بڑی رقم کیوں دی تھی.... پھر غزالی کے پڑوسی سر تویر کو بھی پہچان لیں
 گے جو گھنٹوں اس کے کمرے کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کیا کرتے تھے.... پھر کیا ہو گا۔ لیڈی
 تویر.... اور پھر آپ کو وہ آدمی شناخت کرے گا جو اس دن میرے آفس میں موجود تھا، اور اس
 نے آپ کو وہاں دیکھ کر حیرت بھی ظاہر کی تھی آپ جانتی ہیں وہ کون تھا! نہیں جانتیں!....
 اچھا تو سنئے وہ سی بی آئی کا پرنٹنڈنٹ کیپٹن فیاض تھا!.... لہذا آپ پولیس سے یہ بھی نہیں کہہ
 سکتیں کہ آپ مجھ سے واقف نہیں ہیں!“

”تم کیا چاہتے ہو!“ لیڈی تویر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا!
 ”حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں!.... غزالی کون تھا.... اور اس طرح کیوں مار ڈالا گیا!....“

اس کا پتہ کاٹ دیا! اب وہ شہر کی ساری عورتوں سے ان کے شوہروں کا پتہ کٹا دے گا!

”کیا تم واقعی عمران ہو! یعنی رحمن صاحب کے لڑکے!“

”ختم بھی کیجئے لیڈی تویر..... مجھ سے غزالی کی گفتگو کیجئے۔ آپ یہ بھی جانتی ہوں گی

کہ..... خیر جانے دیجئے!.....“

”میں کچھ نہیں جانتی۔ تم جاسکتے ہو! یقین کرو تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے!“ لیڈی تویر نے

کہا اور اٹھ کر ڈرائنگ روم سے چلی گئی!

۹

عمران نے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے فیاض کو فون کیا کہ وہ اس کے لئے کام شروع کر چکا ہے! لہذا وہ اب اپنا پٹرول پھونکنے کی بجائے اس کی موٹر سائیکل رگیدے گا..... فیاض نے فون ہی پر اسے بے نقط سنائیں..... لیکن عمران ہر گالی پر اسکی ہمت افزائی کرتا رہا۔!

اس کے بعد وہ مزدوروں کی اسی ہستی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں غزالی ٹھہرا ہوا تھا..... اس نے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا! کمرے میں داخل ہوا لیکن وہاں صفائی نظر آئی ایک تنکا بھی نہیں دکھائی دیا! پڑوسیوں میں سے ایک نے جو اپنی رات کی ڈیوٹی ختم کر کے صبح چار بجے واپس آیا تھا بتایا کہ غزالی کے کمرے کے سامنے ایک بڑی سی دین کھڑی ہوئی تھی اور اس پر غزالی کا سامان رکھا جا رہا تھا!..... یہ واقعہ سن کر ایک بار پھر عمران خالی کمرے میں واپس آ گیا..... اور چاروں طرف تجسس نظروں سے دیکھنے لگا..... اور پھر اچانک دروازے کی طرف مز کر تیزی سے جھپٹا! دوسرے لمحے میں وہ جھک کر سگرنوں کا ایک پیکٹ اٹھا رہا تھا!..... پیکٹ خالی تھا! اسے لٹ پلٹ کر دیکھنے لگا!.....

پھر اسے روشنی میں دیکھنے کے لئے دروازے کے سامنے آ گیا! اس پر پینل سے باریک حروف میں جگہ جگہ کچھ تحریر تھا! ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے شغل کے طور پر کچھ لکھا ہو!..... ہر جگہ یکساں تحریر..... لیکن رسم الخط عمران کی سمجھ میں نہیں آ سکا!..... ویسے اس کا خیال تھا کہ وہ روسی رسم الخط بھی ہو سکتا ہے!..... ہر جگہ حروف کی ترتیب یکساں تھی! ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے بے خیالی میں جگہ جگہ کوئی ایک ہی چیز لکھی ہو!..... عمران نے پیکٹ جیب میں ڈال لیا! کمرے میں اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملا!..... تھوڑی دیر بعد پونہ روشنی کی طرف جا رہا تھا..... اسے توقع تھی کہ پروفیسر سعید جو مغربی زبانوں کا ماہر تھا اس؟

ضرور روشنی ڈال سکے گا!

پروفیسر سعید عمران کے دوستوں میں سے تھا! اس نے عمران کے خیال کی تائید کی۔ تحریر روسی ہی رسم الخط میں تھی! وہ دراصل کسی ”آرٹا مونوف“ کے دستخط تھے۔ یونیورسٹی سے واپسی پر عمران سوچ رہا تھا کہ بعض لوگ بیکاری کے لمحات میں یونیورسٹی کے شغل کے طور پر عموماً اپنے ہی دستخط کیا کرتے ہیں۔ بس قلم یا پینسل ہاتھ میں ہونی چاہئے! جو چیز بھی سامنے پڑ گئی بس اس پر دستخط ہو رہے ہیں!

پھر وہ غزالی کے متعلق سوچنے لگا! وہ روسی تو کیا روس سے تعلق رکھنے والی کسی دوسری ریاست کا بھی باشندہ نہیں معلوم ہوتا تھا خود خیال کے اعتبار سے وہ اپنی ہی طرف کا باشندہ ہو سکتا تھا! اب عمران نے فیاض کے دفتر کی راہ لی..... اور وہاں کچھ مزید گالیاں اس کی منتظر تھیں۔

اسے دیکھ کر فیاض آپے سے باہر ہو گیا!

”ان کو آتا ہے پیار پر غصہ!“ عمران نے کان پر ہاتھ رکھ کر ہانک لگائی!

”میں دھکے دے کر باہر نکلوں گا! سچھے!“

”لوگ یہی سمجھیں گے تمہاری بیوی عنقریب طلاق لینے والی ہے ویسے اگر تم باہر سے آنے والوں میں سے کسی آرٹا مونوف کا پتہ لگا سکو تو دین دنیا میں بھلا ہو گا!“

”بس تم چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ خیریت اسی میں ہے!“

”اچھا پٹرول کے دام ہی دے دو! کیوں کہ اب ٹشکی میں تھوڑا ہی رہ گیا ہے!“

”کیا؟“ فیاض جھنجھلا گیا۔ ”اب موٹر سائیکل کو ہاتھ بھی نہ لگاتا!“

”ہاتھ صرف ہینڈل پر رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں اور لگاؤں تو کٹوا لینا! ویسے میں آرٹا مونوف کے معاملے میں سنجیدہ ہوں!..... اس کا تعلق غزالی کی موت سے بھی ہو سکتا ہے!“

”کون غزالی۔ کیا بک رہے ہو!“

”وہی غزالی جس کی لاش تم نے مجھے دکھائی تھی!“

فیاض کرسی کی پشت سے نکل کر عمران کو گھورنے لگا! پھر بُرا سا منہ بنا کر بولا۔ ”خواہ مخواہ مجھ پر عرب ڈالنے کی کوشش نہ کرو!“

”تم لیبارٹری سے آرہے ہو..... اور وہیں سے تمہیں یہ نام معلوم ہوا ہے..... مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ انگشتری مرنے والے ہی کی ہو!..... اس کے کوٹ کے اندرونی جیب کا اسٹر پھٹا ہوا تھا! ہو سکتا ہے اس نے انگشتری کبھی جیب میں ڈالی ہو اور وہ سورخ سے کوٹ کے اسٹر اور اُپ کے درمیان میں پھینچ گئی ہو! اگر وہ خود اس کی ہوتی تو جیب میں ڈالے رکھنے کی کیا تک ہو سکتی

کچھ انہوں نے عمران کو بتایا تھا!

”اچھا فیاض صاحب!“ عمران نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ ”اب تم آرنامونوف کے متعلق معلومات فراہم کرو اور تم اپنی موٹرسائیکل بھی لے جا سکتے ہو!“

”آرنامونوف کون ہے!“

”میرا بھتیجا ہے! تم اس کی پرواہ مت کرو! زیادہ بوری مت کرو نہیں تو میں سوئٹزر لینڈ چلا جاؤں گا!“

فیاض سے پیچھا چھڑا کر وہ ان لوگوں کو تلاش کرنے لگا جنہوں نے پچھلے دن سر تویر کو غزالی کے دروازے پر دستک دیتے دیکھا تھا۔

ان میں سے ایک اسے جلد ہی مل گیا! عمران دراصل یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ غزالی سے ملاقات کرنے کی کوشش کرنے والوں میں سر تویر کے علاوہ اور کتنے مختلف آدمی تھے!.... چونکہ عمران بھی پچھلے دن یہاں موجود تھا۔ اس لئے سر تویر کا حوالہ دے کر گفتگو آگے بڑھانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی اور اس نے بتایا کہ سر تویر کے علاوہ بھی دو آدمی یہاں آتے تھے۔ لیکن انہوں نے کبھی دروازے پر دستک نہیں دی! وہ بس دور ہی سے کمرے کی نگرانی کیا کرتے تھے! ان کے حملے کے متعلق وہ صرف اتنا ہی بتا سکا کہ ان کے چہروں پر گھنی سیاہ داڑھیاں تھیں اور آنکھوں پر تاریک شیشوں کی ٹینکیں!....

”میک اپ!“ عمران آہستہ سے بڑبڑایا!

پھر بستی سے نکل کر اس نے ایک ٹیکسی لی اور سر تویر کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ملک کے بہت بڑے برآمد کنندگان میں سے تھا.... اور اس کے دفاتر دنیا کے مختلف حصوں میں قائم تھے!

اس تک پہنچنے کے لئے عمران کو خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا.... بہر حال کسی نہ کسی طرح رسائی ہو ہی گئی سر تویر نے نیچے سے اوپر تک اسے گھور کر دیکھا!

”میں طاعون کا ٹیکہ لگانے کے لئے نہیں آیا!“ عمران احمقوں کی طرح بول پڑا۔

”کیا بات ہے!“ سر تویر کی گونجیلی آواز سے کمرے میں جھنکار سی پیدا ہوئی!

”غزالی کی لاش.... الفریڈ.... گارڈن.... کل رات!“ عمران اس طرح بولا۔ جیسے وہ سر تویر سے خوفزدہ ہو!

”کیا بکواس ہے!“

عمران جیب سے غزالی کی تصویر نکال کر میز پر رکھتا ہوا بولا۔ ”اس کی لاش!“

ہے!.... ویسے میں لیبارٹری والوں سے سخت ترین الفاظ میں جواب طلب کروں گا کہ وہ اس قسم کی اطلاعات ان لوگوں کو کیوں دیتے ہیں جو چمکے سے تعلق نہیں رکھتے!“

”ان سے یہ بھی پوچھنا کہ انہوں نے مجھے مرنے والے کے گھر کا پتہ بھی کیوں بتا دیا!“

”خواہ مخواہ بات بنانے کی کوشش نہ کرو!“

”انگوٹھی کا کیا قصہ ہے پیارے فیاض“ عمران اسے چکار کر بولا۔

فیاض چند لمحوں سے غور سے دیکھتا رہا پھر بولا۔ ”کیا یہ حقیقت ہے کہ تمہیں یہ نام لیبارٹری سے نہیں معلوم ہوا!“

”یہ حقیقت ہے! ویسے اگر تم لیبارٹری انچارج سے جو تم پیرا ہی کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا! کیوں کہ تم نے آج مجھے بہت گالیاں دی ہیں اور میں اس کے بدلے میں یقیناً یہ چاہوں گا کہ کوئی تمہارے ہاتھ پیر توڑ کر رکھ دے!“

”پھر تمہیں یہ نام کیسے معلوم ہوا۔“

”بس ہو گیا! تم فی الحال اس کی پرواہ نہ کرو اور یہ حقیقت ہے کہ میں اس کے ٹھکانے سے بھی واقف ہو گیا ہوں! اگر یقین نہ آئے تو میرے ساتھ چلو! لاش کی تصویریں غالباً تیار ہو کر تمہارے پاس آگئی ہوں گی!“

”ہاں آگئی ہیں۔ کیوں؟“

”میں اس کے پڑوسیوں سے تصدیق کر دوں گا!“

”کیا تم سنجیدگی سے گفتگو کر رہے ہو!“

”اوہو! کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مفت میں تمہارا پٹرول پھونکتا پھرا ہوں! نہیں ڈیر ایسی بات نہیں.... چلو اٹھو۔۔۔ لیکن لاش کے چہرے کا کلوز اپ ضرور ساتھ لے لینا! تاکہ تمہارا اطمینان ہو سکے!“

”آخر تم نے کس طرح پتہ لگا لیا!“

”الہام ہوا تھا۔۔۔ تمہیں اس سے کیا غرض!“

غزالی کے ان پڑوسیوں نے جو اسے دیکھ چکے تھے۔ اس کی تصویر دیکھ کر عمران کے بیان کی تصدیق کر دی....! فیاض نے ان سے بہترے سوالات کئے لیکن وہ اس سے زیادہ نہ بتا سکے جو

نکل نہ دیکھیں گے۔ میری چار سو بیس صرف ڈاکٹری کے پیشے تک محدود ہے اور میں زیادہ لمبے ہاتھ مارنے کی کوشش نہیں کرتا!“

”تمہیں تصویر کہاں سے ملی تھی!“ سر تنویر نے پھر اپنا سوال دہرایا!

”میں نے حقیقت آپ کو بتادی اور ہاں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ سر تنویر کو پھنسا دو! میں اس جملے سے سمجھ گیا تھا کہ آپ کا کوئی دشمن آپ کو خواہ مخواہ پریشان کرنا چاہتا ہے!“

”تم کیا چاہتے ہو!“ سر تنویر نے تھوڑی دیر بعد پوچھا!

”حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں!“

”کیوں؟ تمہیں اس سے کیا سروکار!“

”میں دراصل جاسوسی کہانیاں بھی لکھتا ہوں! ہو سکتا ہے کہ میں اس سے کوئی عمدہ سا پلاٹ مرتب کر کے تھوڑے سے پیسے ہی کمالوں!“

سر تنویر چند لمحوں میں عمران کو گھورتا رہا۔ پھر میز کی دراز کھول کر نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور اسے عمران کی طرف پھینکتا ہوا بولا۔ ”جاؤ اپنی زبان بند رکھنا! یہ دو ہزار ہیں!“

”دو لاکھ پر بھی لعنت!“ عمران بگڑ گیا! ”آپ ایک شریف آدمی کو بلیک میلر سمجھ رہے ہیں... ڈاکٹری والی چار سو بیس کی اور بات ہے۔ اس میں کافی محنت، وقت اور پیسہ برباد ہوتا ہے... اور اس طرح اپنی کمائی حلال کر لیتا ہوں!... سمجھے جناب... لا حول ولاقوۃ... میں ایک باعزت ادیب ہوں! اگا تھا کر سٹی نے میرے درجنوں ناولوں کا انگریزی ترجمہ کیا ہے!“

”تم میرا وقت برباد کر رہے ہو... روپے اٹھاؤ... اور چلتے بنو!“

”میں حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں! غزالی کون تھا... اور آپ جیسا بڑا آدمی اس میں کیوں دلچسپی لے رہا تھا! اور یہ تو میں جانتا ہوں کہ اس کی موت میں آپ کا ہاتھ نہیں ہے! ورنہ آپ خود کو منظر عام پر نہ آنے دیتے!“

”مجھ سے کھل کر بات کرو! تم کون ہو!“ سر تنویر نے آگے جھکتے ہوئے آہستہ سے کہا۔

”میں نے ابھی تک بند ہو کر کوئی بات نہیں کی!“

”سی بی آئی کے آدمی ہو!“

”نہیں میری شادی نہیں ہوئی۔ میں کسی سی بی آئی کو نہیں جانتا۔“

سر تنویر نے نوٹوں کی گڈی اٹھا کر پھر میز کی دراز میں ڈال لی اور میز پر رکھی ہوئی گھنٹی پر ہاتھ مارا ہوا بولا۔ ”اب چپ چاپ چلے جاؤ... ورنہ چپراسی دھکے دے کر نکال دے گا!“

گھنٹی کی آواز کے ساتھ ہی چپراسی بھی آگیا تھا!

”تو میں کیا کروں!“

”محض آپ کی اطلاع کے لئے! وہ اپنے پڑوسیوں کے لئے بڑا پر اسرار تھا اور وہ لوگ اس سے بھی زیادہ پر اسرار تھے جو اس کے لئے اس بستی کے چکر لگایا کرتے تھے!“

”ہوں!“ سر تنویر دونوں ہونٹ ہنچ کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا! اس کی آنکھیں عمران کے چہرے پر تھیں!

”پھر!“ اس نے تھوڑی دیر بعد کہا!

”ان گدھوں نے مجھے بھی بیچ میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے! ہوا یہ کہ آج میں پھر وہاں پہنچ گیا۔ مجھے حالات کا علم نہیں تھا۔ وہ گدھے شاید آپ کے متعلق پولیس کو بتا رہے تھے!... شہادت کے طور پر انہوں نے مجھے پیش کر دیا!... مگر بھلا میں انہیں کیسے بتا دیتا کہ وہ آپ تھے بستی میں گھسے ہی ایک مزدور نے مجھے حالات سے باخبر کر دیا تھا!... میں نے پولیس کو بتایا کہ ایک شریف آدمی کار میں ضرور آئے تھے مگر انہیں پہچانتا نہیں البتہ دوسری بار دیکھنے پر ضرور پہچان لوں گا۔ اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے!“

”کیوں تمہاری عزت کیوں!“

”میں دراصل سرکاری ڈاکٹر نہیں ہوں... بس یہ سمجھئے کہ چار سو بیس کر کے پیٹ پالتا ہوں! ہاں کسی زمانے میں ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کا کپاؤنڈر ضرور رہ چکا ہوں ڈسٹنڈ واٹر کے مفت انجکشن لگا کر لوگوں پر اپنی اہمیت جتاتا ہوں! اس لئے کوئی خاص ضرورت پڑنے پر لوگ میرے ہی پاس دوڑے آتے ہیں... میں اپنی کمائی کرتا ہوں... جی ہاں... مگر اب شاید میری پول کھل جائے گی!... یہ بہت برا ہوا جناب اب مجھے کوئی مشورہ دیجئے!“

”مشورہ... کسی وکیل سے لو... وقت ہو چکا ہے... اب تم جا سکتے ہو!... مگر ٹھہرو! تمہیں یہ تصویر کہاں سے ملی!“

”اب میں کیا عرض کروں! آپ نہ جانے کیا سوچیں گے!“

”بتاؤ!“ سر تنویر گر جا!

”میں پولیس سے پیچھا چھڑا کر واپس آ رہا تھا کہ بیٹیل والی گلی کے موڑ پر ایک آدمی ملا! اس کے چہرے پر گھٹی سیاہ داڑھی تھی اور آنکھوں میں تاریک شیشوں والی عینک... اس نے مجھے تصویر دے کر کہا کہ یہ غزالی کی تصویر ہے اور اس کی موت کے ذمہ دار سر تنویر ہی ہو سکتے ہیں!“

”بلیک میل کرنا چاہتے ہو مجھے!“ سر تنویر دانت پیس کر بولا۔

”ارے تو بہ تو بہ!“ عمران اپنا منہ پیٹنے لگا! ”میں جا رہا ہوں! جناب... آئندہ آپ میری

”آخاہ... السلام وعلیکم!“ عمران نے اٹھ کر نہ صرف چہرہ اسی کو سلام کیا بلکہ زبردستی مصافحہ بھی کرنے لگا اور چہرہ اسی بیچارہ بری طرح بوکھلا گیا!... چہرہ اسی ہی نہیں بلکہ سر تویر بھی اس غیر متوقع حرکت سے جھوکھل میں آ گیا تھا!

”چہرہ اسی!“ اس نے بمشکل تمام پھنسی پھنسی ہی آواز حلق سے نکالی لیکن عمران چاچکا تھا۔

||

عمران نے پھر ایک پبلک ٹیلیفون بوتھ سے کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائل کئے... اور اس سے آرٹا مونیف کے متعلق پوچھا!

”تم آخر کیا کرتے پھر رہے ہو!“ فیاض نے دوہری طرف سے کہا۔ ”مجھے بتاؤ... ورنہ مجبوراً... مجھے...“

”صبر کرنا پڑے گا!“ عمران نے جلدی سے جملہ پورا کر دیا!

”آرٹا مونیف کے متعلق اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک کہ تم مجھے سارے حالات سے باخبر نہ کرو!“

”اچھا میری جان... مجھے نہ غزالی سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ آرٹا مونیف سے... میں گھر جا رہا ہوں ویسے گھر بھی تمہارا ہی ہے۔ لیکن تمہارے فرشتے بھی وہاں سے مجھے نہیں نکال سکتے۔“

عمران ریسیور رکھ کر بوتھ سے باہر آ گیا! وہ جانتا تھا کہ فیاض ابھی خود ہی دوڑا آئے گا لہذا اب اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں! اسے یقین تھا کہ وہ خود ہی آکر سب کچھ اگل دے گا! اس بھاگ دوڑ میں چارج گئے تھے اور روشنی فلیٹ میں اس کی منتظر تھی! نہ صرف روشنی بلکہ لیڈی تویر بھی!

عمران لیڈی تویر کو دیکھ کر بولا۔ ”آپ یہاں سے فوراً چلی جائیے۔ کیوں کہ کیپٹن فیاض یہاں آئے والا ہے!“

”صرف ایک بات سن لو!“

”سنا جائیے جلدی سے!“

”غزالی کی موت کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں!... یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت میں میرا ہاتھ ہو... اور میرا زانا تاہم نہیں ہو سکتا کہ اسے قتل کر دیا جائے“

”میں آپ کا راز نہیں معلوم کرنا چاہتا... آپ جا سکتی ہیں! لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ“

تویر بڑی مصیبتوں میں پھنس جائیں گے... پولیس انہیں سونگھ چکی ہے۔ ایک سرکاری ڈاکٹر نے انہیں غزالی کا کمرہ کھلوانے کی کوشش کرتے دیکھا تھا... بس اب جائیے... اگر کیپٹن فیاض نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو... گھپلا ہو جائے گا۔ بس جائیے۔“

لیڈی تویر چند لمحوں کچھ سوچتی رہی پھر آہستہ سے بولی۔ ”بقیہ تین ہزار لائی ہوں!“

”انہیں آپ واپس لے جائیے! اگر میں اسے یہاں سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ روپے یقیناً میرے تھے!“

”اب بھی تمہارے ہی ہیں!“

”زبان بند رکھنے کے لئے۔ کیوں؟“

”زبان تو ہر حال میں بند رکھنی ہی پڑے گی... اور ہاں میں نے تحقیق کر لی ہے... تم رحمن صاحب ہی کے لڑکے ہو!...“

”رحمن صاحب سر تویر کے گہرے دوستوں میں سے ہیں اور وہ کبھی ہم لوگوں کی رسوائی گوارا نہ کریں گے!“

”اچھا... اچھا... اب آپ جائیے! کیپٹن فیاض... ہاں... روپے میں نہیں لوں گا!“

لیڈی تویر اٹھ کر چلی گئی!

روشیا اردو نہیں جانتی تھی۔ اس لئے ان کی گفتگو اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی!... لیڈی تویر کے جانے کے بعد روشی نے میز کی دراز سے نوٹوں کی تین گڈیاں نکال کر عمران کے سامنے ڈال دیں!

”ہائیں-- یہ کیا!“

”لیڈی تویر نے دیئے تھے!“

”تم نے کیوں لئے؟“

”زبردستی دے گئی ہے۔ میں کیا کرتی۔ اس نے کہا تھا کہ تم اس کے دوست کے لڑکے ہو!“

بات اس سے زیادہ نہیں بڑھنے پائی کیوں کہ فیاض سچ بچھ گیا!... اس نے نوٹوں کی طرف حکیم کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ”بڑے مالدار ہو رہے ہو!“

”کب نہیں تھا! آؤ بیٹھو دوست بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی! کیا آج کل بہت مصروف ہو!“

”حرفوں میں اڑانے کی کوشش نہ کرو!“

”میں اس جملے کا مطلب نہیں سمجھا!“ عمران نے آنکھیں پھاڑ کر کہا!

”آرٹا مونیف...!“

درمیان میں رکھی اور روشنی کے ہاتھوں سے ٹرے لے کر اس پر رکھنے لگا۔
 ”اسے اپنا ہی گھر سمجھو!“ عمران آنکھیں بند کر کے سر ہلانے لگا۔ چائے کے دوران میں زیادہ تر خاموشی ہی رہی!.... فیاض اور روشنی نے دو ایک رسمی قسم کی باتیں کیں!
 چائے ختم کرنے کے بعد فیاض نے ایک سگریٹ سلگائی اور اس کا موڈ یک لخت تبدیل ہو گیا! وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عمران اسے زندگی بھر باتوں میں اڑاتا رہے گا!
 ”ہاں! وہ بات تو رہ ہی گئی!“ فیاض مسکرا کر بولا۔ ”ایک آرٹا مونوف کا سراغ مل گیا ہے!“
 ”مل گیا تاہا!“ عمران پاگلوں کی طرح ہنسا! ”میں پہلے ہی جانتا تھا کہ مل کر رہے گا!“
 ”ایک ہفتہ گزرا یہاں! اسپین کی ایک ڈانسنگ پارٹی آئی ہے! آرٹا مونوف اسی کا ایک رکن ہے!“
 ”مگر آرٹا مونوف تو روسی نام ہے!“ عمران بولا!

”کیا ہوا!.... اسپین میں انقلاب روس کے مارے ہوئے بہترے آباد ہیں!“
 ”ہاں ٹھیک ہے!....“ عمران کچھ سوچنے لگا! پھر تھوڑی دیر بعد بولا۔
 ”اس میں لڑکیاں بھی ہوں گی اور ایک مخصوص راقصہ تو یقیناً ہوگی!“
 ”یورپ کی مقبول ترین راقصہ.... مورنیا سلاو!“
 ”مورنیا.... مورنیا.... سلاو!....“

عمران نے رک رک کر دہرایا اسے یلکھت یاد آ گیا کہ غزالی نے یہی نام لیا تھا سو فی صدی یہی پلازا.... میں پروگرام ہو رہے ہیں! آج کے خصوصی پروگرام کا نام ”جنم کی راقصہ“ ہے.... یہ مورنیا کا مشہور ترین رقص ہے!.... یورپ میں اسے خاصی مقبولیت حاصل ہوئی ہے!.... وہ آگ میں ناچتی ہے!“
 عمران کچھ نہ بولا! وہ کسی گہری سوچ میں تھا!....

رقص کا پروگرام آٹھ بجے سے شروع ہونے والا تھا!.... عمران نے ساڑھے سات بجے تک بہتری معلومات فراہم کر لیں.... آرٹا مونوف پارٹی میں پیانسٹ تھا.... اور پارٹی چندہ افراد پر مشتمل تھی جن میں سے پانچ لڑکیاں تھیں! انہیں میں مورنیا بھی شامل تھی.... پارٹی اسپین سے آئی تھی اور پورے ایشیا کا دورہ اس کے پروگرام میں شامل تھا!
 عمران کو آرکسٹرا کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لئے رشوت دینی پڑی کیونکہ زیادہ تر سیٹیں

”آہا سمجھا!....“ عمران نے اس کی بات کاٹ دی! ”میری قابلیت کا امتحان لینا چاہتے ہو آرٹا مونوف خاندان کا تذکرہ میکسم گوگول نے اپنے ناول میں کیا تھا!“
 ”میکسم گورکی....!“ فیاض نے براسانہ بنا کر کہا!
 ”نہیں گوگول میں شرط لگانے کے لئے تیار ہوں!“
 ”تم جاہل ہو.... گورکی.... آرٹا مونوفس.... گورکی کا ناول ہے!“
 ”گوگول! اگر زیادہ تاؤ دلاؤ گے تو گوگول گول کہوں گا! دیکھتا ہوں کہ تم میرا کیا.... بنا نہیں بگاڑ.... نہیں ہش.... بنا.... کیا کہتے ہیں.... جہنم میں جائے، ہاں تو میں ابھی کیا کہہ رہا تھا!“
 ”عمران میں بہت بری طرح پیش آؤں گا!“ فیاض بھنا گیا!
 ”آپ کے لئے چائے لاؤ!“ عمران نے روشنی سے انگریزی میں کہا.... اور روشنی دوسرے کمرے میں چلی گئی! فیاض اسے جانتے دیکھتا رہا! پھر اس نے ایک طویل سانس لی!
 ”ہائیں ہائیں!“ عمران نے اپنے دیدے پکرائے! ”خبردار ہلکے ہو شیار.... تم میری پارٹنر کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں نہیں بھر سکتے! سو پر فیاض-- میں تم پر مقدمہ چلا دوں گا--!“
 ”میں یہاں پر تمہاری خرافات سننے نہیں آیا۔“
 ”تمہاری بڑی مہربانی ہے کہ کبھی کبھی چلے آتے ہو!.... مگر.... خیر نالو.... تمہیں آج سبز چائے پلاؤں گا!“

”تمہیں غزالی کی جائے قیام کا پتہ کیسے معلوم ہوا تھا!“
 ”کون غزالی!“ عمران نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت ظاہر کی!
 ”اس سے کام نہیں چلے گا! میں تمہیں دفتر میں طلب کر لوں گا!“
 ”اور غالباً اس دفتر میں وہ تمہارا آخری دن ہو گا!....“ عمران چیو گم چکلتا ہوا بولا!
 فیاض کچھ دیر خاموشی سے عمران کو گھورتا رہا۔ پھر اس نے کہا۔ ”آخر تم چاہتے کیا ہو!“
 ”مرنے کے بعد صرف دو گز زمین!“ عمران ٹھنڈی سانس لے کر مغموم لہجے میں بولا۔ ”ہاتھی نہیں چاہتا، گھوڑا نہیں چاہتا.... محل دو محلہ نہیں چاہتا!“

پس مردن بنائے جائیں گے ساغر مری کلی کے
 لب جاں بخش کے بوسے ملیں گے خاک میں مل کے
 شعر پڑھ چکنے کے بعد عمران نے ایک بڑی لمبی آہ بھری.... اور خاموش ہو گیا....
 روشنی چائے کی ٹرے لئے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی فیاض خود بخوار نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا.... لیکن روشنی کو دیکھتے ہی اس کی مدد کرنے کے لئے کھڑا ہو گیا۔ چھوٹی میز کھینچ کر

ایڈوانس بنگ میں ”مخصوص“ ہو گئی تھیں!

پورا ہال بھر گیا تھا.... اور باہر ”ہاؤز فل“ کی سختی لگادی گئی تھی! لیکن پھر بھی لوگوں کا یہ عالم تھا کہ بنگ ہاؤز کی بند کھڑکیوں پر ٹوٹے پڑے تھے۔ آخر حالات اتنے تازک ہو گئے کہ پولیس کو مداحلت کرنی پڑی!

اندر ہال میں اسٹیج کا پردہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر دونوں گوشوں کی طرف کھسکتا چلا گیا۔ پورے اسٹیج پر آگ کی لپٹیں نظر آرہی تھیں، آگ مصنوعی نہیں بلکہ حقیقی تھی! کیونکہ اگلی نشستوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو چمچ جہنم کا مزہ آگیا تھا!

اسٹیج نشستوں کی سطح سے کافی بلند تھا! اس لئے اس بات کا اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگ پورے اسٹیج پر پھیلی ہوئی ہے یا درمیان میں کچھ جگہ خالی بھی رکھی گئی ہے! ویسے بادی النظر میں یہی معلوم ہوتا تھا کہ پورے اسٹیج پر آگ کی لپٹوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے!

اچانک سارا ہال موسیقی سے گونجنے لگا.... اور آگ کی لپٹوں کے درمیان ایک حسین چہرہ دکھائی دیا وہ بھی آگ ہی کا معلوم ہوتا تھا۔

آگ-- موسیقی.... اور آتشیں چہرے نے کچھ ایسی فضا پیدا کر دی کہ تماشاویوں کو رقص کے آغاز و اختتام کا احساس ہی نہ ہو سکا شاید ہی کوئی یہ بتا سکتا کہ رقص کتنی دیر تک ہوتا رہا تھا! تالیوں کی گونج پر لوگ چونکے اور انہیں احساس ہوا کہ وہ مشینی طور پر تالیاں پیٹ رہے ہیں! اس میں ان کے ارادے کو دخل نہیں تھا!

متواتر ڈیزہ گھنٹے تک اسٹیج پر آگ نظر آتی رہی اور اس اثناء میں مورنیا نے تین رقص پیش کئے! ایک میں وہ تنہا تھی اور دو رقص اس نے چار لڑکیوں کے ساتھ پیش کئے تھے۔

پروگرام کے اختتام پر گرین روم کے سامنے آدمیوں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا!.... وہ سب مورنیا کو قریب سے دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ اس لئے عمران کو یقین تھا کہ وہ کسی چور دروازے سے نکل کر اپنی قیام گاہ کی طرف بھاگے گی!

پلازا کی عمارت دو منزلہ تھی! نیچے ہال تھا اور اوپری منزل پر گرینڈ ہوٹل! مورنیا بھیڑ سے بچنے کے لئے ہوٹل ہی کو راہ فرار بنا سکتی تھی! اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا!

ہوٹل کے دوڑینے تھے۔ ایک تو سڑک پر تھا اور دوسرا اگلی میں! عمران نے سڑک والے زینے کو بھی ذہن سے نکال دیا اور سرے لئے میں وہ گلی کی طرف بڑھ رہا تھا! گلی تپتی ضرور تھی لیکن تاریک نہیں تھی اور وہاں چمچ عمران کو ایک لمبی سی کار کھڑی دکھائی دی اور گلی میں اس کی موجودگی کی کوئی تک نہیں تھی! عمران بڑی تیزی سے گلی سے نکل کر اپنی ٹو سیٹر کے قریب آیا

اور اسے یہ دیکھ کر بالکل حیرت نہیں ہوئی کہ اس میں کیپٹن فیاض بر اجمان ہے!

اسے شام ہی سے اس کا احساس تھا کہ کیپٹن فیاض اس کا تعاقب کر رہا ہے!

اس نے اس کی طرف دھیان دیئے بغیر دروازہ کھولا اور اسٹیرنگ کے سامنے بیٹھ کر انجن اشارت کیا!.... پھر گاڑی پلازا کی عقبی گلی کی طرف ریٹکنے لگی! عمران اتنی بے تعلقی سے اسٹیرنگ کرتا رہا جیسے اسے اپنے قریب فیاض کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو۔

”کدھر چل رہے ہو!“ اچانک فیاض نے پوچھا اور عمران ”ارے باپ!“ کہہ کر اس طرح اچھل پڑا کہ گاڑی ایک دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچی.... اوز پھر عمران کے حلق سے کچھ اس قسم کی آوازیں نکلنے لگیں جیسے وہ نیند کی حالت سے ڈر کر جاگ پڑا ہو!

”کیا یہ ہو گی ہے! گاڑی سنبھالو!“ فیاض نے اسٹیرنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا!

”نہیں! میری جیب میں کچھ نہیں ہے!“ عمران رو دینے والی آواز میں بولا۔ ”قسم لے لو بھائی!“

”او عمران کے بچے!“

”آں... ہائیں... تو یہ تم ہو! فیاض....!“ عمران بڑبڑایا۔ ”اگر میرا ہاتھ نفل ہو جاتا تو....“ ”سچ کہتا ہوں کسی دن تمہاری ساری سٹی نکال دوں گا!“ فیاض نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ عمران کچھ نہ بولا! اس نے اپنی ٹو سیٹر گلی میں کھڑی کر دی! وہ لمبی کار سے کافی فاصلے پر تھے اور ٹو سیٹر اندھیرے میں تھی! عمران نے انجن بند کر دیا۔

”یہاں کیوں آئے ہو!“ فیاض نے پوچھا!

”تم سے عشق ہو گیا ہے مجھے!“ عمران ایک ٹھنڈی آہ بھر کر سینے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ ”بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اظہار عشق کر دوں.... لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی.... آج پڑ گئی ہے کیوں کہ آج تم اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لائے!۔۔۔ ظالم سماج کے ڈر سے.... ارے باپ رے باپ.... مذہب کے ٹھیکیداروں کے ڈر سے.... اور وہ سب کیا ہوتا ہے.... وغیرہ وغیرہ وہی سب کچھ جو رومانی نادلوں میں ہوتا ہے.... وہ سب کچھ کہنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تم سے پریم ہو گیا ہے.... آؤ ہم تم بہت دور بھاگ چلیں.... بہت دور.... مثلاً قطب شمالی یا قطب جنوبی یا قطب کی لاٹھ.... ہائیں میرے پیٹ میں یہ مینھا مینھا درد کیوں ہو رہا ہے.... شاید اسی کا نام محبت ہے کو فنت.... ارے باپ رے باپ بھوک لگی ہے.... اور میں اس وقت کو فنت کھانا پسند کر دوں گا! فیاض مائی ڈیزیر.... ہپ!.... شش شش.... خاموش!“

مورنیا زینوں سے اتر کر کار کی طرف بڑھ رہی تھی! اس کے ساتھ تین مرد بھی تھے!

”یکو اس مت کرو“ فیاض پھرا کھڑ گیا!

اگلی کار ہو ٹل الا سکا کے سامنے رک گئی! مورنیا اور اس کے تینوں ساتھی اتر کر ہو ٹل میں چلے گئے اور عمران اپنی گاڑی کافی فاصلہ پر روک کر فیاض کو وہیں بیٹھنے کا اشارہ کر تا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ہو ٹل کے پورچ میں بل کیپٹن تنہا کھڑا تھا اور وہ اس کے قریب سے گزر کر اندر گئے تھے عمران پورچ میں ہی رک کر بل کیپٹن سے غپ لڑانے لگا! باتوں ہی باتوں میں اس نے نہ صرف مورنیا کی اس ہو ٹل میں رہائش کے متعلق معلوم کر لیا بلکہ یہ بھی پوچھ لیا کہ وہ اور اس کے ساتھی کن نمبروں کے کمروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں!

مورنیا نے اپنی جائے قیام کے متعلق کوئی اعلان نہیں کیا تھا! اس لئے محدودے چند لوگ ہی اس کی رہائش گاہ سے واقف تھے! اس نے بل کیپٹن سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ کن اوقات میں ہو ٹل میں ہوتی ہے!

واپسی پر فیاض نے اس سے پوچھا ”یہ کس عورت کا تعاقب ہو رہا تھا!“

”ایک ایسی عورت کا جس کا شوہر اسے طلاق دینا چاہتا ہے اور میں طلاق کے لئے جواز تلاش کر رہا ہوں! سو پر فیاض! تم میرے بزنس کے معاملات میں ٹانگ مت اڑایا کرو سر اغر سہانی میرا پیٹ نہیں بھرتی۔“

۱۳

دوسری صبح عمران نے ایک پبلک ٹیلیفون بوتھ سے کیپٹن فیاض کو غزالی کے کوٹ کے لئے فون کیا! جواب میں فیاض نے بتایا کہ بہت زیادہ مشغول ہے۔ لیکن کسی نہ کسی طرح ایک گھنٹے کے اندر ہی کوٹ اسے بھجوادے گا۔!

عمران اپنے فلیٹ میں واپس آکر اس کا انتظار کرنے لگا! لیکن کوٹ سے پہلے لیڈی تویر پہنچ گئی اس کا چہرہ ستا ہوا تھا! ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ساری رات جاگتی رہی ہو!

”س مائی لیڈی“ عمران کرسی سے اٹھتا ہوا بولا!

”ہینٹو! ہینٹو!“ لیڈی تویر نے مضطربانہ انداز میں کہا ”اور خود بھی ایک کرسی میں گر گئی۔ روشی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی!“

”میں تم سے بہت کچھ کہنے آئی تھی مگر اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں! اب میں تم سے ایک کام اور لینا چاہتی ہوں!“

اگلی کار کے گلی سے نکلے ہی عمران کی ٹوسیز بھی آگے بڑھ گئی!.... فیاض ناموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا! ٹوسیز اگلی کار کا تعاقب کر رہی تھی! فیاض نے مورنیا کو پہچانا نہیں تھا! کیوں کہ اس کے کوٹ کے کار پر لگے ہوئے سورا کی بلندی اس کے کانوں کے اوپری حصے تک تھی!.... اور اس کے سر پر ہیٹ بھی تھا! عمران نے بھی محض اندازاً اسے مورنیا سمجھ لیا تھا! مگر یہ حقیقت تھی کہ اس نے اندازہ کرنے میں غلطی نہیں کی تھی۔

”ہاں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا کہتی ہے!“ عمران نے اچانک پوچھا!

”زہر۔۔ اور پیشانی کا زخم!۔۔! زخم کے اندر چھوٹے چھوٹے سگریزے ملے ہیں اور ان میں سے بعض تو ہڈی میں گھسے چلے گئے تھے! ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ سگریزے کسی پریشر مشین سے پھینکے گئے ہوں۔۔۔ اور نوعیت کے اعتبار سے وہ روش کی سرخ بجزیوں سے مختلف ہیں ہیرے کی طرح کسی بلوریں پتھر کے سگریزے سمجھ لو!“

”ہام تو.... میرا خیال غلط نہیں نکلا!“

”تمہارا خیال غلط کبھی نکلا ہے پیارے!“ فیاض اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا۔

عمران کچھ نہ بولا! وہ بڑی سنجیدگی سے کسی مسئلے پر غور کر رہا تھا! تھوڑی دیر بعد فیاض نے کہا ”ہاں ایک دوسری خاص بات۔ جو نوعیت کے اعتبار سے عجیب ہے۔ وہ انگوٹھی اب بہت زیادہ پراسرار ہو گئی ہے۔“

”کیوں؟ پراسرار کیوں؟“

”کوٹ کے اندرونی جیب کا ستر پھٹا ہوا نہیں تھا!.... کہیں بھی کوٹ میں کوئی رخنہ موجود نہیں ہے جس کے ذریعہ انگوٹھی اُپر اور.... ستر کے درمیان پہنچ سکے! تم خود سوچو کہ ایسی صورت میں اس کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ انگوٹھی دیدہ دانستہ کوٹ کے اندر رکھوائی گئی تھی۔!“

”لیکن وہ نکالی کس طرح گئی تھی؟“ عمران نے پوچھا۔

”کوٹ کے دامن میں خفیہ سا شگاف دے کر!“

”ہام تو اچھا وہ کوٹ! اسے میرے پاس بھجوادینا!“

”بھجوادوں گا۔۔ مگر اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے!“

”مقصد بتانے کی فیس مبلغ ساڑھے چار آنے ہوتی ہے!“

”یار عمران خدا کے لئے مذاق نہ کرو!“

”یہی جملہ اگر تم نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا ہوتا تو تمہاری بیوی سیدھی میرے دفتر چلی آتی

اور مجھے اس سے کافی فائدہ پہنچتا!“

کو کیا منہ دکھاؤں گا!

”عمران... بیٹے... خدا کے لئے مجھ پر رحم کرو۔“

”اچھا تو جائے!... سر تنویر سے کہہ دیجئے گا کہ جیسے ہی ڈاکٹر پھر نظر آئے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں پھر میں سب کچھ دیکھ لوں گا! آپ... مگر... آپ... مجھے سب کچھ بتائیں گی!“

”سر تنویر سے مشورہ لئے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتی!... ہاں تم اس بوگس ڈاکٹر والے معاملے کے لئے کتنا طلب کرو گے!“

”کچھ بھی نہیں۔ میں یہ نیک کام مفت کروں گا!...“

”میں تمہارے متعلق بہت کچھ معلومات فراہم کر چکی ہوں! تم آخر رحمان صاحب کی مرضی کے مطابق زندگی کیوں نہیں بسر کرتے!“

”وہ خود میری مرضی کے مطابق زندگی کیوں نہیں بسر کرتے...“ عمران گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پھر آہستہ سے بولا۔ ”اب میں اجازت چاہوں گا!“

لیڈی تنویر چلی گئی! لیکن اس نے عمران کے اس رویہ پر بہت برا سامنہ بنایا تھا!

عمران میز پر طبلہ بجانے لگا! پھر چونک کر روشی کو آواز دی۔

تھوڑی دیر بعد دونوں ناشتہ کر رہے تھے... روشی کچھ اکھڑی اکھڑی نظر آرہی تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ برس پڑنے کے لئے کوئی بہانہ تلاش کر رہی ہو!

ناشتے کے دوران ہی میں کمپین فیاض کا آدمی غزالی کا کوٹ لے کر آیا اور واپس بھی چلا گیا!

”کاروبار تو اچھا چل رہا ہے!“ عمران نے روشی سے کہا تھا اور روشی نے جواب میں زمین و آسمان ایک کر دیئے! عمران کی شخصیت کا کوئی پہلو ایسا نہیں بچا جس پر روشی نے نکتہ چینی نہ کی ہو۔

”پرواہ نہ کرو!“ عمران بڑبڑایا ”ایک دن تم بھی اس کی عادی ہو جاؤ گی۔“

”نہیں میں تنہائی میں پاگل ہو جاؤں گی! تم مجھے اپنے دوستوں سے کیوں نہیں ملاتے!“

”ملاؤں گا... ذرا حالات درست ہو جانے دو... اچھا... ہپ... اب میں کام کرنا چاہتا ہوں!“

عمران نے کہا اور غزالی کا کوٹ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا دامن میں نیچے کی طرف ایک چھوٹا سا شگاف تھا۔ جو غالباً انگوٹھی کے اندر سے نکالنے کے لئے بنایا گیا تھا بہر حال کوٹ کا اچھی طرح جائزہ لینے پر فیاض کے بیان کی تصدیق ہو گئی فی الحقیقت دوسرا کوئی ایسا سوراخ موجود نہیں تھا جس سے انگوٹھی استر اور اپر کے درمیان پہنچ سکتی ہو... پھر وہ انگوٹھی اندر کس طرح پہنچی!

عمران سوچنے لگا کہ دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ وہ دیدہ دانستہ اپر اور استر کے درمیان

”توبہ توبہ!“ عمران اپنے کان اینٹھ کر منہ پینٹا ہوا بولا ”آپ کام لینا چاہتی ہیں یا میرا کام تمام

کرنا چاہتی ہیں!“

”میری بات تو سنو!“

”سنائیے صاحب!“ عمران بے بسی سے بولا!

”ایک بوگس ڈاکٹر کے متعلق معلومات فراہم کرنی ہیں جو اسی معاملے میں سر تنویر کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے شاید انہیں غزالی کے دروازے پر دستک دیتے دیکھ لیا تھا۔!“

عمران نے ایک طویل سانس لی اس کے چہرے پر اطمینان نظر آنے لگا! جیسے کوئی بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہو!

”اچھا تو آپ دونوں ہی یہی چاہتے تھے کہ غزالی یہاں سے چلا جائے!“

”ہاں یہ درست ہے!“ لیڈی تنویر نے جواب دیا!

”تو پھر آپ اب تک یہ کیوں ظاہر کرتی رہی تھیں کہ آپ یہ سب کچھ سر تنویر کے علم میں نہیں کر رہی ہیں!“

”ضرورت! اگر میں ایسا نہ کرتی تو تمہیں میرا کام مضحکہ خیز معلوم ہوتا اور تم غزالی کو چھوڑ کر میرے ہی پیچھے پڑ جاتے اور اگر میں یہ نہ کرتی تو پانچ ہزار کی پیش کش مسخرہ پن معلوم ہوتی!

میں دراصل اپنے رویہ سے یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ مجھے غزالی کی طرف سے بلیک میلنگ کا خدشہ ہے لیکن حقیقت یہ نہیں تھی!“

”پھر حقیقت کیا ہے!“

”کچھ بھی ہو! لیکن وہ ایسی نہیں ہے جس کی بناء غزالی کی موت میں ہمارا ہاتھ ہو سکے!“

”آپ نہیں بتانا چاہتیں!“

”میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اس واقعہ کو بھول جاؤ! کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے میرا راز طشت از باہم ہو جائے... اور اگر تم اس نقلی ڈاکٹر کو بھی روک سکو تو اس کی اجرت الگ وہ بھی معمولی رقم نہ ہو گی سمجھے!“

”سمجھا اگر آپ دونوں یعنی آپ کے ساتھ سر تنویر بھی اس معاملے میں کسی ایک ہی مقصد کے تحت دلچسپی لے رہے ہیں تو میں مطمئن ہوں! لیکن ایک نہ ایک دن تو آپ کو اپنا راز مجھے

بتانا ہی پڑے گا!“

”فضول باتیں چھوڑو اس نقلی ڈاکٹر کے لئے کیا کرو گے!“

”بھلا میں اسے کہاں ڈھونڈتا پھروں گا اور پھر اگر اس کی لاش سے بھی ملاقات ہو گئی تو خدا

”مگر آج غالباً معرکہ الارار قص نہیں ہوگا!“ پروفسر نے کہا: ”وہی آگ والا!“
 ”پرواہ نہیں!“ عمران سر ہلا کر بولا ”بس جیسے ہی میں ریڈی کہوں! اپنے ہوش و حواس
 سنبھال لینا۔! سمجھے!“

”لیکن آخر اس حرکت سے فائدہ ہی کیا!.... اگر پکڑے گئے تو.... تم خود سوچو.... میری
 کتنی بدنامی ہوگی! ایک نہیں میرے درجنوں اسٹوڈنٹ ہال میں موجود ہوں گے!“
 ”اس صورت میں قطعی یہ نہ ظاہر ہونے پائے گا کہ تم میرے ساتھ ہو! بس پیارے....!“
 ”تم سے پیچھا چھڑا لینا آسان کام نہیں ہے!“ پروفسر نے بے بسی سے کہا۔ رقص شروع
 ہوا.... وہ بڑے سکون کے ساتھ لطف اندوز ہوتے رہے۔!-

چوتھے سیٹ کا آغاز ہوتے ہی عمران نے پروفسر کی طرف جھک کر آہستہ سے ریڈی بنا....
 اور پروفسر سنبھل کر بیٹھ گیا.... مورنیا اسٹیج پر ایک طرب یہ رقص پیش کر رہی تھی! اچانک ایک
 چگادڑ اس کے چہرے سے ٹکرائی اور وہ بے تحاشا چیخ مار کر پس منظر کے پردے پر الٹ گئی چگادڑ
 پہلے تو نیچے گری پھر اسٹیج سے اڑ کر ”ٹپک ٹپک“ کرتی ہوئی ہال کے تاریک گوشوں میں چکر
 لگانے لگی! پردہ فوراً ہی گر ادا گیا اور سارا ہال تماشائیوں کے شور سے گونجنے لگا!.... اوہ پروفسر
 عمران سے کہہ رہا تھا!

”تم آدمی ہو یا جادوگر!.... تم نے آخر اسے کس طرح پھینکا کہ مجھے بھی احساس نہ ہو سکا!“
 ”اسے چھوڑو“ عمران بولا۔ ”یہ بتاؤ کہ وہ کس زبان کی الفاظ تھے“
 ”جرمن!“ پروفسر نے کہا۔ ”اور اردو میں ان کا مفہوم ”خدا عارت کرے“ کے علاوہ اور کسی
 دوسرے الفاظ میں نہیں ادا ہو سکتا!“

”تمہیں یقین ہے کہ جرمن ہی کے الفاظ تھے!“

”سو فیصدی“ پروفسر بولا!

”شکریہ! دوست تمہیں میری وجہ سے خاصی تکلیف اٹھانی پڑی!“

”مگر آخر اس کا مقصد کیا تھا!“

”کچھ نہیں بس ایک تجربہ.... اور اب یہ حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی ہے کہ ہر آدمی بے
 خبری اور خوف کی حالت میں ہمیشہ اپنی مادری زبان بولتا ہے.... سبحان اللہ.... کیا قدرت کے
 کادخانے ہیں.... قربان جائیے....!“

”میں اب بھی نہیں سمجھا!“

”یہ بیچاری حقیقتاً جرمن ہے مگر خود کو اطالوی ظاہر کرتی ہے!“

رکھوائی گئی ہو! مگر مقصد.... کیا خود انگوٹھی کی حفاظت! مگر انگوٹھی فیاض کے بیان کے مطابق
 زیادہ قیمتی نہیں تھی! اس پر کوئی نگینہ بھی نہیں تھا! نگینہ کی جگہ مسطح تھی اور اس پر ”غزالی“ کندہ
 تھا! وہ سوچ رہا تھا کہ انگلشٹری پر نام کندہ کرانا بھی.... کم از کم موجودہ دور میں رائج نہیں
 ہے.... پھر مقصد؟

وہ کافی دیر تک خیالات میں ڈوبا رہا پھر اس نے غزالی کے کوٹ کا اسٹر ادھیڑنا شروع
 کر دیا.... دیر ضرور لگی لیکن محنت ضائع نہیں ہوئی.... سینے پر بکرم کی جگہ.... ٹریٹنگ کلاتھ
 لگا ہوا دیکھ کر عمران چونکا.... اور پھر دوسرے ہی لمحہ میں اس نے ایک لمبیل سانس ن....
 ٹریٹنگ کلاتھ پر سیاہ رنگ کی تحریر تھی....

عمران اسے پڑھتا رہا.... اور اس کے ہونٹ ہنپتے رہے!....
 تحریر پڑھ پکنے کے بعد اس نے ٹریٹنگ کلاتھ کے ٹکڑے کو بڑی احتیاط سے میز کی دراز میں
 رکھ دیا اور بائیں طرف کا اسٹر ادھیڑنے لگا.... ادھر بھی بکرم کی بجائے ٹریٹنگ کلاتھ ہی نکلا۔
 لیکن یہ بالکل سادہ تھا.... عمران نے اسے بھی نکال کر دراز میں ڈال دیا!
 روشی بیکار بیٹھی تھی!.... اس نے ایک بار پھر عمران سے اپنی اکتاہٹ کا تذکرہ کیا!
 ”ہاں واقعی“ عمران مسکرا کر بولا۔ ”بیکاری آدمی کو بیمار ڈال دیتی ہے! اچھا تو بیکار مت بیٹھو!
 اس کوٹ کا اسٹر دوبارہ سی ڈالو!“

”تم نے اسے ادھیڑا کیوں اور یہ کس کا ہے!“ روشی نے پوچھا! وہ اس وقت کمرے میں موجود
 نہیں تھی جب عمران نے اس کا اسٹر ادھیڑ کر ٹریٹنگ کلاتھ نکالا تھا!....
 ”میرا ہی ہے!“ عمران نے سنجیدگی سے کہا! ”میں ہمیشہ پرانے کوٹ خرید کر پہنتا ہوں اس
 طرح کئی عدد کوٹ ہو جاتے ہیں اور یہ تو تم جانتی ہی ہو کہ ہر روز کوٹ تبدیل کرنے والے
 ہمیشہ بڑے آدمی ہوا کرتے ہیں!“

اسی شام کو عمران پھر پلازا میں جا پہنچا!.... لیکن آج اس کے ساتھ اس کا دوست پروفسر
 بھی تھا! وہی جس سے عمران نے سگریٹ کے پیکٹ پر پنسل سے کئے ہوئے دستخط پڑھوائے تھے!
 آرکسٹرا کے ٹکٹوں کا انتظام پہلے ہی سے کر لیا گیا تھا.... اور اس بات کا خاص خیال رکھا گیا
 تھا کہ پچھلی نشستوں کی قطار میں جگہ ملے!

”اوہو! اچھا!“ پروفیسر نے حیرت سے کہا ”تب تو تجربہ واقعی بہت کامیاب رہا میں سمجھتا ہوں کہ تم پر وہی طالب علمی کے زمانے والا لفتنگا پین سوار ہو گیا ہے۔۔۔ مگر عمران کیا چکر ہے... کوئی خاص بات... آہا میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ تم آج کل سی بی آئی میں کام کر رہے ہو!...“

”کبھی کر رہا تھا۔ اب استعفیٰ دے دیا ہے! نہیں اس تجربے کا تعلق کسی اہم واقعہ سے نہیں تھا! بس یونہی خیال پیدا ہوا تھا کیوں کہ اس عورت کے خدو خال اطالیوں جیسے نہیں ہیں۔ لہذا میں نے کہا یہ تجربہ بھی ہو جائے۔“

”مگر پھر آخر اس نے یہ ڈھونگ کیوں رچایا ہے!“ پروفیسر کچھ سوچتا ہوا بڑبڑایا۔

”یہ بھی کوئی خاص بات نہیں!“ عمران نے لا پرواہی سے کہا ”جنگ عظیم کے بعد سے یورپ میں جرمنوں کی طرف سے عام بیزاری پائی جاتی ہے... لہذا خود کو جرمن ظاہر کر کے وہ اتنی زیادہ مقبول نہ ہو سکتی!“

پروفیسر کچھ نہ بولا... عمران نے بڑی خوبصورتی سے بات بتائی تھی!

ہوٹل الاسکا میں ایک ہفتہ قبل بنگ کر ائے بغیر کمرہ حاصل کر لینا آسان کام نہیں تھا لیکن عمران کو اس کے بے تکلف احباب بھوت بھی کہتے تھے، لہذا وہ بھوت ہی ٹھہرا اس نے ایک چھوڑ دو کرے حاصل کئے۔ ایک اپنے لئے اور ایک روشی کے لئے! اور اسی کارڈر میں حاصل کئے جس میں مورنیا سلاو اور اس کے ساتھیوں کے کمرے تھے!

روشی اب اسکرٹ کی بجائے فراک اور شلوار میں رہتی تھی! کبھی کبھی چمیر اور غراے میں بھی نظر آ جاتی تھی! اسے مشرقی لباس بہت پسند تھے اور محض مشرق اور مغرب کے اس احترام کی بناء پر مورنیا کی پارٹی کے مرد اس میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگے تھے جب روشی ان میں متعارف ہو گئی تھی تو عمران کیسے نہ ہوتا!... اس نے بہت جلد ان پر اپنی حماقت کا سکہ جما لیا خاص طور پر مورنیا کے لئے تو وہ ایک ایسا لطیفہ تھا جس کے بغیر کھانے کی میز پر بے روشی رہتی تھی۔

دوسری طرف اس کی پارٹی کے مردوں کا خیال تھا کہ اگر انہیں ایسے ہی دو چار بیوقوف نم کے شوہر اور مل گئے تو ان کا وقت کافی دلچسپیوں میں گزرے گا۔

بہر حال عمران ان لوگوں کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا!... مورنیا اپنے ساتھیوں کے

چاٹی تھی! بالکل اسی انداز میں جیسے وہ اس کے ملازم ہوں اور ان سے ہمیشہ انگریزی میں گفتگو کرتی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سب مجموعی حیثیت سے انگریزی کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں سمجھ سکتے تھے! آرتا مونوف پر عمران نے خاص طور پر نظر رکھی تھی! یہ ایک طویل القامت اور قوی الجذ آدمی تھا۔ اس لئے چہرے کے دوسرے خدو خال کی مناسبت سے ٹھوڑی بہت زیادہ ہماری تھی اس لئے چہرہ بے ڈول سا معلوم ہوتا تھا چلنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ بلی کی لنگڑاہٹ کا شبہ ہوتا تھا! حالانکہ وہ حقیقتاً لنگڑاہٹ نہیں تھی!

آج عمران پھر مورنیا کی بے خبری میں اس کا تعاقب کر رہا تھا وہ اپنے سارے ساتھیوں سمیت ایک بڑی سی اسٹیشن وگین میں سفر کر رہی تھی اور ایک مقامی آدمی بھی ان کے ساتھ تھا!... رات کے دس بجے تھے اور وہ پلازا کے پروگرام ختم کر کے واپس ہوئی تھی! مگر اسٹیشن وگین ان راستوں پر نہیں چل رہی تھی جو ہوٹل الاسکا کی طرف جاتے تھے۔

عمران کی ٹوسیٹر تعاقب کرتی رہی! عمران تنہا ہی تھا...

پھر اسٹیشن وگین ایک ایسی بستی میں داخل ہوئی جہاں زیادہ تر اونچے طبقے کے لوگ آباد تھے... اور یہاں دور دور تک شاندار عمارتیں پھیلی ہوئی تھیں!... لیکن آبادی گھنی نہیں تھی!... ہر عمارت الگ حیثیت رکھتی تھی اور ایک سے دوسری کے درمیان میں کچھ نہ کچھ فاصلہ ضرور تھا... بستی کے باہر دو اطراف میں جنگلوں اور کھیتوں کے سلسلے تھے۔

اسٹیشن وگین ایک عمارت کے سامنے رک گئی! عمران بہت زیادہ احتیاط برت رہا تھا!... اس نے اپنی کار کی ہیڈ لائٹس پہلے ہی سے بجھا رکھی تھیں!...

دو تین آدمی اسٹیشن وگین سے اترے اور پھر سب ہی نیچے آگئے! وہ گاڑی سے کوئی بہت وزنی چیز اتارنے کی کوشش کر رہے تھے اور اسے نیچے اتارنے میں تاخیر کا سبب عمران کی سمجھ میں نہ آسکا جب کہ بیک وقت کئی آدمی کوشش کر رہے تھے! آخر ٹھوڑی ہی دیر بعد حقیقت واضح ہو گئی! انہوں نے ایک بہت بڑا گھڑ اتارا!... لیکن انہیں اسے پھر زمین پر ڈال دینا پڑا اور دو تین آدمی اسے دبائے رہے بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی جاندار چیز ہو اور انہیں اس بات کا فخر ہو کہ اگر وہ اسے دبائے نہ رہے تو وہ ان کے قبضے سے نکل جائیگی۔

برقت تمام وہ اسے اٹھا کر سامنے والی عمارت میں چلے گئے۔

عمران نے مضطربانہ انداز میں اپنے شانوں کو جنبش دی!۔۔!

چند لمحوں کے بعد اسی جگہ کھڑا رہا... پھر بڑی تیزی سے ایک سمت چلنے لگا! اسے یاد آ گیا تھا کہ اس بستی میں ایک سرکاری ہسپتال تھا جہاں پبلک کے استعمال کے لئے ٹیلیفون بونے بھی بنا ہوا ہے!

اس نے بوتھ میں داخل ہو کر بڑی تیزی سے کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائیکل کئے۔۔۔۔۔ یقین تھا کہ وہ اس وقت گھر ہی پر ہو گا کیونکہ اس کی بیوی ان دنوں بیمار تھی۔

”ہیلو! فیاض۔۔۔! میں عمران بول رہا ہوں۔۔۔ روپ نگر سے۔۔۔۔۔ ہاں۔۔۔ اور میں ٹریڈنگ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے جا رہا ہوں! اگر تم چاہو تو تمہیں ایک گھنٹے بعد وہاں میری لاٹر تیار ملے گی۔۔۔۔۔ ہپ اگر اس سے پہلے پہنچ گئے تو ہو سکتا ہے کہ غزالی کے قاتلوں کا دیدار کر سکو!“

”سمجھ گئے نا۔۔۔۔۔ ہاں!۔۔۔۔۔ بس۔۔۔۔۔ ختم!“

عمران ریسورٹ کے لگا کر پھر باہر آگیا اور بہت تیزی سے اپنی کار کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کار کے قریب پہنچ کر اس نے اس کی اسپینی کھولی اور اندر ہاتھ ڈال کر کچھ ٹونے لگا۔ اس اسپینی میں دنیا بھر کی بلائیں بھری رہتی تھیں اور عمران اسے ہمیشہ مقفل رکھتا تھا!۔۔۔۔۔

۱۶

مورنیا سلائیو اس وقت عورت نہیں معلوم ہو رہی تھی۔۔۔۔۔ اور نہ اس کے خدو خال میں نسوانیت کا شائبہ رہ گیا تھا!۔۔۔۔۔ وہ اس دیسی آدمی کو بھوکے شیرنی کی طرح گھور رہی تھی جو اس کے سامنے ایک کرسی میں رسی سے جکڑا بیٹھا تھا۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ ایک دیسی آدمی اور بھی تھا۔۔۔۔۔ لیکن وہ مورنیا کے آدمیوں کے ساتھ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا بے تعلقانہ انداز میں سگریٹ کے پلکے پلکے کش لے رہا تھا!۔۔۔۔۔

”بتاؤ!“ مورنیا گرجی! ”ہڑتال کیوں ناکامیاب ہوئی تھی۔“

”میں نہیں جانتا!“ کرسی میں بندھے ہوئے آدمی نے جواب دیا۔

”آرنا مونوف۔۔۔۔۔!“ مورنیا نے آرنا مونوف کی طرف دیکھے بغیر اسے مخاطب کیا!

”ہاں مادام!“

”اس کے بازوؤں پر خنجر کی نوک سے انقلاب لکھو!“

آرنا مونوف جیب سے ایک بڑا سا چاقو نکال کر دیسی کی طرف بڑھا اور دیسی ہڈیانی انداز میں چیخنے لگا ”تم مجھے خوف زدہ نہیں کر سکتے۔۔۔۔۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔۔۔۔۔“

آرنا مونوف نے چاقو کی نوک اس کے بازو میں اتار دی۔۔۔۔۔ دیسی نے اپنے ہونٹ بھیج لئے۔ اب وہ خاموش ہو گیا تھا۔۔۔۔۔ بالکل بے حس و حرکت۔۔۔۔۔ صرف اس کی آنکھوں سے

تکلیف کے احساس کا اظہار ہو رہا تھا!۔۔۔۔۔

”بس اب ہٹ جاؤ!“ مورنیا بولی!۔۔۔۔۔

آرنا مونوف نے چاقو ہٹا لیا!۔۔۔۔۔ دیسی کی استخوانوں سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں!

”اب بتاؤ“ مورنیا نے اسے مخاطب کیا!

”ہاں۔۔۔۔۔ اب میں ضرور بتاؤں گا۔۔۔۔۔! سنو!“ دیسی دانت پیس کر بولا! ”میں تمہارے ساتھ

تھا۔ میں اپنی زندگی سے کھیلا ہوں! میں نے تمہارے لئے کیا نہیں کیا!۔۔۔۔۔ لیکن اب تمہاری پول کھل چکی ہے!۔۔۔۔۔ تمہاری تنظیم کا دعویٰ ہے کہ ساری دنیا کے آدمیوں کی بی بی خواہ ہے! لیکن یہ دعویٰ ایک کھلا ہوا جھوٹ ہے!۔۔۔۔۔ تمہاری تنظیم ساری دنیا میں ایک مخصوص قسم کا انقلاب لانا چاہتی ہے۔ محض اس لئے کہ دنیا کے کسی گوشے میں اس کے مخالف نہ رہ جائیں۔۔۔۔۔ اور وہ ملک ساری دنیا پر اپنی چودہراہٹ قائم کرے جو اس تنظیم کا مرکز ہے!۔۔۔۔۔“

”آرنا مونوف!“ مورنیا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا! ”اس کی ران پر انقلاب لکھو!“

آرنا مونوف نے اس کی رانوں پر چاقو کی نوک سے وہی عمل شروع کر دیا!۔۔۔۔۔

دیسی اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے پتھر کے بت کی طرح مورنیا کو گھور رہا تھا!

”اب کیا کہتے ہو!“ مورنیا نے تھوڑی دیر بعد کہا۔

”میں تم پر تھوکتا ہوں!“ دیسی نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا ”تم سچ جح جہنم کی رقاہ ہو!“

”آرنا مونوف اس کے داہنے کان کا نچلا حصہ کاٹ دو!“ مورنیا نے اتنے پر سکون انداز میں کہا جیسے وہ اسے انعام دلوار ہی ہو!

آرنا مونوف نے اس کے داہنے کان کی لواڑی! دیسی اپنی چیخ کسی طرح نہ روک سکا!

مورنیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی پھر اس نے آرنا مونوف کو الگ ہٹ جانے کا اشارہ کیا!

دیسی کے کان سے خون کی دھار نکل کر گردن پر پھیل رہی تھی!

”تم اپنی زندگی سے کیوں بیزار ہو!“ اس دیسی نے کہا جو دور کھڑا سگریٹ پی رہا تھا!

”بھائی!“ زخمی کراہا ”خدا تمہیں عقل دے۔۔۔ ایک دن تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔۔۔۔۔ مگر اس وقت چاقو تمہارے اپنے ہی کسی بھائی کے ہاتھ میں ہو گا!۔۔۔۔۔ ملک و قوم سے غداری کرنے والے کا یہی انجام ہونا چاہئے۔۔۔۔۔ اور میں تو خوش ہوں کہ مجھے انہیں لوگوں کے ہاتھوں زائل رہی ہے۔ جنہوں نے مجھے بہکایا تھا!“

”خاموش رہو!“ مورنیا چیخی! ”تمہاری ہڈیوں پر سے ایک ایک بوٹی کر کے گوشت اتارا جائے گا!“

”یہ بھی کر کے دیکھ لو.... لیکن تمہیں ہڑتال کی ناکامی کے اسباب نہیں معلوم ہو سکیں گے۔ تم مجھے مار ڈالو تب بھی....!“

”آرٹا مونوف۔۔۔ دوسرے کان کی لو بھی اڑا دو!“

اس بار دہی کے منہ سے ایک طویل چیخ نکلی اور وہ بیہوش ہو گیا!

”موسیو! ارشاد....!“ مور نیانے دوسرے دہی کو مخاطب کیا!

”ہاں۔۔۔ مادام!“

”اب کیا صورت اختیار کی جائے!“

”کوئی بھی نہیں.... وہ ہرگز نہیں بتائے گا!“

”خیر.... پرواہ نہیں!“ مور نیانے لاپرواہی سے کہا ”آرٹا مونوف! اسے ختم ہی کر دو!“

آرٹا مونوف۔ بیہوش آدمی کی طرف پھر بڑھا۔

”ظہر وا! ارشاد چیخا.... اس کے داہنے ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ اچھل کر دور جا کھڑا ہوا تھا!

”کیا مطلب!“ آرٹا مونوف پلٹ کر غرایا۔

”تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو.... اس سے پہلے میں مروں گا میں نے تمہارے انقلاب کی

تصویر دیکھ لی.... اور اب میں بھی اس پر لعنت بھیجتا ہوں.... کاش میں اس کی جگہ ہوتا!“

”موسیو! ارشاد تم پاگل ہو گئے ہو!“ مور نیانے مسکرا کر کہا!

”نہیں اب ہوش میں آیا ہوں! پاگل تو پہلے تھا.... بہتری اسی میں ہے کہ اسے کھول دو!

اور میں اسے یہاں سے لے جاؤں۔ کیونکہ میری ہی بدولت یہ تمہاری گرفت میں آیا تھا!“

”آرٹا مونوف! موسیو ارشاد کا کہنا مانو!“ مور نیانے نرم لہجے میں کہا!

آرٹا مونوف جھک کر رسی کی گرہیں گھولنے لگا....

یہ ایک نفسیاتی لمحہ تھا.... ارشاد کی تمام توجہ آرٹا مونوف کی طرف تھی اور وہ اس لمحہ

بھول گیا تھا کہ وہاں کئی دوسرے آدمی بھی ہیں ”اچانک مور نیانے کے ساتھیوں میں سے ایک نے

ارشاد پر چھلانگ لگائی ایک فائر ہوا اور سامنے والی دیوار کا بہت سا پلاسٹر اڑھ کر فرش پر آ رہا

ریوالور ارشاد کے ہاتھ سے نکل کر کئی فٹ اونچا اچھل گیا.... وہ دونوں ایک دوسرے سے لپ

پڑے تھے! ارشاد اس غیر ملکی سے زیادہ طاقت ور نہیں معلوم ہوتا تھا!

”خیلو ف! اگلا گھونٹ دو اس کا!“ مور نیانے قہقہہ لگایا۔

لیکن اچانک خود اس کے حلق سے پھنسی ہوئی آوازیں نکلنے لگیں!.... کیوں کہ اس کی

گردن میں دیکھنے والوں کو ایک پھندا پڑا ہوا نظر آیا.... رسی کا دوسرا سر اروشن دان تک پہنچ کر

غائب ہو گیا تھا۔ وہ بوکھلا کر اس کی طرف دوڑے حتیٰ کہ وہ آدمی بھی اچھل کر الگ ہٹ گیا جو ارشاد سے گتھا ہوا تھا مور نیانے کے پیر زمین سے تقریباً ایک باشت اونچے تھے اور اس نے دونوں ہاتھوں سے رسی پکڑ رکھی تھی ورنہ اس کی گردن کبھی کی ٹوٹ چکی ہوتی.... گردن پر پھندے کا زور نہیں پڑا تھا!.... وہ اسی طرح لٹکی ہوئی ہسٹریائی انداز میں چینی رہی!

۱۷

عمران نے رسی کا دوسرا سر اوپری منزل کے ایک ستون کے گرد پیٹ کر گرہ لگا دی تھی! عمارت میں ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا.... اور اس نے یہ حرکت محض! اس لئے کی تھی کہ وہ انہیں اس چکر میں پھنسا کر نہایت اطمینان سے ان کے باہر نکلنے کے سارے راستے مسدود کر دے!

اور در حقیقت ہوا بھی یہی! وہ سب مور نیانے کو پھندے سے نجات دلانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے اور عمران نے نیچے اتر کر اس کمرے کے سارے دروازوں کو باہر سے بند کرنا شروع کر دیا۔ اندروالوں کو اس کی خبر بھی نہ ہو سکی! اب ایسی صورت میں عمران ان سے تنہا بھی نپٹ سکتا تھا۔ لیکن اس نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی.... اگر وہ اب بھی محکمہ سراغ رسانی سے باقاعدہ طور پر منسلک ہوتا تو شاید کچھ نہ کچھ کر بھی گزرا ہوتا اب تو اسے بہر حال کیپٹن فیاض کی آمد کا منتظر رہنا تھا۔

۱۸

”او گدھے.... آرٹا مونوف!“ مور نیانے چینی! ”رسی کو کاٹنا کیوں نہیں!“

”او.... ہاں.... ٹھیک!“ آرٹا مونوف اس طرح اچھل پڑا جیسے ابھی تک سوتا رہا ہو

دوسرے لمحے میں وہ ایک کرسی پر کھڑا ہو کر رسی کاٹ رہا تھا۔

ارشاد کے ہاتھ سے نکلا ہوا ریوالور اب بھی فرش پر پڑا ہوا تھا! وہ کھسکتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔

ابھی رسی نہیں کٹی تھی کہ ایک فائر ہوا.... اور آرٹا مونوف کرسی سے اچھل کر نیچے فرش

پڑا.... جھٹکا جو لگا تو آدھی کٹی ہوئی رسی ٹوٹ گئی اور اس چیز نے مور نیانے کی جان بچالی ورنہ

دوسری گولی اس کے سینے میں پیوست ہوتی.... وہ بھی آرٹا مونوف ہی کے قریب

گری... لیکن آرنامونوف پھر نہیں اٹھ سکا وہ دم توڑ رہا تھا کیوں کہ گولی اس کی پیشانی میں لگی تھی۔
ارشاد کا قبہ بڑا خوفناک تھا! لیکن اس نے تیسرا فائر نہیں کیا!

اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر کسی کی ہمت نہ پڑی کہ وہ آگے بڑھتا! ارشاد دروازے کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کچھ بھائی نہ دے رہا ہو!

کئی ہوئی رسی کا پھندا اب بھی مورنیا کی گردن میں تھا... اور شاید اب اسے اس کا احساس ہی نہیں رہ گیا تھا اس کی آنکھوں میں اس وقت بڑی خوفناک قسم کی چمک نظر آرہی تھی!...
”کتنا سنو!“ اچانک ارشلو غرایا ”یہاں اس ملک میں تمہارے ناپاک ارادے کبھی شرمندہ تکمیل نہیں ہو سکیں گے۔ یہاں کی فضاء میں ایسا معاشرہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا جو خدا کے وجود سے خالی ہو اور اب تم بھی جاؤ...“

ارشاد نے جواب دیا، لیکن مورنیا اس سے پہلے ہی زمین پر گر چکی تھی! اس کی چیخ نے ارشاد کو دھوکے میں ڈال دیا! وہ نہیں دیکھ سکا کہ وہ فرش پر گر کر مردہ آرنامونوف کی جھینٹوں میں ڈال رہی ہے۔
”اور تم سب!“ ارشاد نے مورنیا کے دوسرے ساتھیوں سے کہا ”اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے رکھو یہ نہ سمجھنا کہ اس ریوالور میں اب صرف دو ہی گولیاں رہ گئی ہیں! میری جیب میں ابھی ایک اور ریوالور ہے... یہ دیکھو اس نے دوسرا ریوالور جیب سے نکال کر انہیں دکھایا۔

مورنیا نے مردہ آرنامونوف کی جیب سے ایک عجیب وضع کی چیز نکالی تھی اس نے لینے ہی لینے اس کا رخ ارشاد کی طرف کر دیا۔

پہنچا اس نے تیسرے فائر کی آواز سنی اور ساتھ ہی مورنیا کی چیخ بھی سنائی دی!
دوسرے ہی لمحہ میں اس کی آنکھ دروازے کی جھری سے جا لگی!

سامنے سات آٹھ آدمی اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے کھڑے تھے!... آرنامونوف کی لاش بھی دکھائی دی جس کے سر کے گرد بہت سا خون فرش پر پھیلا ہوا تھا!... اور اس نے مورنیا کو اس کی جیب سے کوئی چیز نکالتے دیکھا ارشاد اسے نہیں دکھائی دیا کیوں کہ وہ اسی دروازے کے قریب دیوار سے ملا ہوا بیٹھا تھا! بیہوش دیکھی اب بھی کر سی میں جکڑا ہوا تھا! عمران نے اندازہ کر لیا کہ دوسرا دیکھی یقیناً زندہ ہے اور اسی نے سامنے والے آدمیوں کے ہاتھ اٹھوار کھے ہیں!

لیکن مورنیا کی حرکت اس کی سمجھ میں نہ آسکی! یہ بات تو پہلے ہی اس پر واضح ہو گئی تھی کہ فائر مورنیا پر کیا گیا تھا کیونکہ چیخ اسی کی تھی اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسری عورت کمرے میں نہیں تھی!۔۔

وہ سمجھا تھا کہ شاید مورنیا مردہ آرنامونوف کی جیب سے ریوالور نکال رہی ہے اور بے خبری میں اس آدمی پر فائر کر دے گی جس نے اس کے ساتھیوں کے ہاتھ اٹھوار کھے ہیں۔

لیکن اس کی توقع کے خلاف مورنیا نے اس کی جیب سے سیاہ رنگ کا ایک چمچا سا ڈبہ نکالا!
جس کی لمبائی چھ انچ سے زیادہ نہ رہی ہوگی اور چوڑائی زیادہ سے زیادہ تین چار انچ! پھر اس نے اس کا ایک سر اور دروازے کی طرف گھماتے دیکھا!

دفعاتاً ایک خیال بجلی کی سی سرعت کے ساتھ اس کے ذہن میں آیا اور وہ بے اختیار چیخنے لگا
”روٹی... روشنی ڈارلنگ... تم کہاں ہو... یہ آرنامونوف کتا تمہیں کہاں لے گیا!“

مورنیا نے عمران کی آواز سنی اور ڈبہ اس کے ہاتھ سے گر گیا! ارشاد بھی اس کی آواز پر چونک پڑا تھا! اب اسے اس کا بھی احساس ہوا کہ مورنیا زندہ ہے اور اس نے اس سیاہ سی چیز کی بھی ایک جھلک دیکھی جو مورنیا کے ہاتھ سے گری! وہ بھی اسے ریوالور سمجھا!

”کھڑی ہو جاؤ مورنیا! ورنہ گولی مار دوں گا!“ ارشاد چیخا۔۔

مورنیا بوکھلا کر کھڑی ہو گئی! ڈبہ آرنامونوف کی لاش پر پڑا ہوا تھا! ”اپنے ساتھیوں کے ہاتھ انکے رومالوں اور تائیوں سے باندھ دو!“ ارشاد بولا اور پھر اس نے ریوالور کا رخ دروازے کی طرف کرتے ہوئے کہا! ”تم جو کوئی بھی ہو! باہر ہی ٹھہرو! اگر اندر آئے تو موت سے لے گی!“

عمران سارے دروازوں کی مضبوطی کے متعلق اطمینان کر کے صدر دروازے کی طرف چل پڑا۔ وہ بہت بے صبری سے کیپٹن فیاض کا انتظار کر رہا تھا!
وہ ابھی صدر دروازے تک پہنچا بھی نہ تھا کہ اس نے فائر کی آوازیں سنیں!... اور وہ اندر کے کسی حصے سے آتی معلوم ہوتی تھیں!

وہ اٹنے پاؤں واپس ہوا... کچھ دور یونہی چلتا رہا پھر دوڑنے لگا اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا اسے پہلے ہی ان دونوں دینیوں کا انتظام کر لینا چاہئے تھا! اس بار کے دونوں فائر کی کانہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ختم کر دیئے گئے! پھر جیسے ہی وہ اس کمرے کے دروازے تک

”میں اپنی بیوی کی تلاش میں ہوں!“ عمران نے رو دینے کے لیے میں انگریزی میں کہا ”یہ لوگ اسے بہکا کر یہاں لائے ہیں!“

پھر اردو میں بوللا ”شاباش گھبرانا نہیں! میں سی آئی ڈی کا آدمی ہوں!... ہو سکے تو وہ ڈب۔۔۔ مگر نہیں اس پر صرف نظر رکھو! کوئی اٹھانے نہ پائے... اور اپنا ریوالور ہٹالو!“

”میں کیسے یقین کر لوں!“ دھیمی آواز میں جواب ملا!

”اس کی گردن میں میں نے ہی پھنسا ڈالا تھا!“

مورنیا کسی وحشت زدہ ہرنی کی طرح ارشاد کو گھور رہی تھی!

ارشاد نے دوسرے ریوالور کا دستہ مار کر چٹخنی گرا دی اور عمران اس طرح اندد گھستا چلا گیا جیسے غیر متوقع طور پر دروازہ کھلنے کی بناء پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا ہو! اور پھر وہ آرناموٹوف کی لاش پر گر پڑا... اس پر سے اٹھا تو ڈبہ اس کی جیب میں داخل ہو چکا تھا۔

”کیا تم سب کچھ بے ہو گئے ہو!“ دفعتاً مورنیا نے اپنے آدمیوں کو لکارا... اور پھر ایسا معلوم ہوا جیسے ان سب کی بیہوشی رفع ہو گئی ہو۔

دو فائر ہوئے۔ لیکن وہ آندھی کی طرح ارشاد پر گرے تھے ارشاد کے فائر خالی گئے تھے عمران نے مورنیا کی گردن میں لٹکی ہوئی رسی کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور وہ اس پر آگری! عمران اسے اس کے ساتھیوں کی طرف گھماتا ہوا چیخا! ”ہٹ جاؤ۔ الگ ہٹ جاؤ ورنہ میں اسے مار ڈالوں گا!“

انہوں نے اس کی طرف دیکھا مگر پرواہ نہ کی! ارشاد نے پھر فائر کیا! ایک زخمی ہو کر گرا... لیکن کب تک۔۔۔ انہوں نے اسے جلد ہی بے بس کر کے دونوں ریوالور اپنے قبضے میں کر لئے...

دو ریوالور ڈن کی ٹالیں عمران کی طرف اٹھی ہوئی تھیں اور وہ مورنیا کی گردن دو بچے ہوئے کہہ رہا تھا! ”فائر کرو! اس طرح پہلے یہ مرے گی بعد کو میری باری آئے گی... ریوالور خالی کر کے میری طرف پھینک دو! ورنہ میں اس کا گلا گھونٹتا ہوں!“

عمران مورنیا سمیت پیچھے کی طرف کھسکتا ہوا دیوار سے آگے تھا اور اب اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ اگر وہ اس پر فائر کریں گے تو پہلے مورنیا ہی شکار ہوگی! م

”تم بالکل گدھے ہو!“ ارشاد اردو میں بڑبڑا رہا تھا ”سارا کھیل بگاڑ دیا۔“

”اگر میں کھیل نہ بگاڑتا تو تمہارا کھیل کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا!“

اچانک بیٹار دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں عمارت میں گونجنے لگیں! پھر وہ لوگ سنبھلے بھی نہ پائے تھے کہ مسلح پولیس کے سپاہی اس کمرے میں گھس پڑے! دو تین فائر پھر کمرے میں

گونجنے لیکن آنے والے تعداد میں ان غیر ملکیوں سے کہیں زیادہ تھے! دو کانسٹیبل زخمی ضرور ہو گئے لیکن مجرموں میں سے ایک بھی بچ کر نہ نکل سکا!

پھر وہ عمران کی طرف متوجہ ہوئے اور عمران زور سے چیخا! ”اے خبردار ادھر پردہ ہے۔“

۲۱

ابھی چار بجے تھے کہ عمران کی آنکھ کھل گئی! کوئی بڑی شدوہ کے ساتھ فلیٹ کا دروازہ پیٹ رہا تھا! عمران کی لکار پر جو آواز آئی وہ کیپٹن فیاض کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی! عمران نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔

”کس مصیبت میں پھنسا دیا تم نے!“ فیاض نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا!
”کیوں! کیا ہوا...؟“

”وہ آدمی جس کا نام تم نے ارشاد بتایا تھا... وہ تو پاگل ہے پچھلے سال پاگل خانے میں بھی رہ چکا ہے! کئی پولیس آفیسروں نے اس کی تصدیق کی ہے وہ اب بھی پاگل ہے اور دن رات سڑکوں پر مارا مارا پھرتا ہے!“

”اچھا دوسرا زخمی آدمی!“ عمران نے پوچھا!

”وہ تو واپسی پر راستے ہی میں مر گیا! مورنیا کہتی ہے کہ ارشاد نے خود کو ایشیائی رقصوں کا ماہر بنا کر اس کی پارٹی کو اس عمارت میں مدعو کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ایشیا کے چند قدیم رقصوں کے متعلق بتائے گا! اس کا بیان ہے کہ جب وہ کمرے میں پہنچی تو اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک بیہوش زخمی آدمی کرسی میں بندھا ہوا دکھائی دیا! پھر ارشاد نے ان سب سے کہا کہ اگر انہوں نے اس کی مرضی کے خلاف کیا تو ان کا بھی اسی آدمی کا ساشتر ہوگا! اس نے انہیں دھمکانے کے لئے دو ریوالور نکال لئے تھے! پھر مورنیا سے دوسرے کمرے میں تنہا چلنے کے لئے کہا۔ اس پر اس کے ساتھیوں کو غصہ آگیا! ہنگامہ ہوا اور اس کے دو ساتھی ارشاد کی دیواروں کا نشانہ بن گئے اور پولیس پر بھی اسی نے گولی چلائی تھی!“

”اور تم اتنے ہی میں پور ہو گئے!“ عمران جمائی لے کر بھرائی ہوئی آواز میں بولا!

”کیا تمہارے پاس ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ہے!“

”ہاں مورنیا ایک ایسے ملک کی جاسوس ہے جو ساری دنیا پر اپنا تسلط چاہتا ہے!“

”ثابت کر سکو گے...!“

”کیوں نہیں!.... غزالی جنوبی افریقہ کی سیکرٹ سروس کا آدمی تھا!“ عمران نے کہا اور میز کی دراز سے ٹریٹنگ کلا تھ کا وہ نکلوا نکال کر فیاض کے سامنے ڈال دیا جو غزالی کے کوٹ کے اندر سے نکلا تھا۔ فیاض اسے دیکھنے لگا!

اس انگوٹھی کا مطلب یہی تھا کہ ضرورت پڑنے پر کوٹ اڈھیڑ ڈالا جائے۔ دیکھو اس تحریر سے نیچے اس محکمے کی سرکاری مہر بھی موجود ہے جس سے غزالی کا تعلق تھا اور تم وہاں کی حکومت سے اس کی تصدیق یہ آسانی کر سکتے ہو! خود غزالی کو اس بات کا خدشہ تھا کہ مورنیا کے تعاقب کے سلسلے میں وہ اپنی زندگی بھی کھو سکتا ہے اس لئے اس نے یہ تحریر اپنے کوٹ میں اس طرح چھپا رکھی تھی اور اس کے مرنے کے بعد وہ انگوٹھی ہی اس تحریر تک دوسروں کی رسائی کر سکتی تھی! پوری تحریر پڑھو! خود ہی واضح ہو جائے گا! غزالی عرصے سے اس کے تعاقب میں رہا ہے وہ اس بات پر بھی شبہ کرتا ہے کہ مورنیا سلاً اطالوی ہے! وہ لکھتا ہے کہ خواہ میری زندگی ہی کیوں نہ ختم ہو جائے میں مورنیا کے خلاف ٹھوس قسم کے ثبوت مہیا کئے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا! وہ ایک ایسے ملک کی جاسوس ہے جو ایک مخصوص قسم کے انقلاب کے ذریعہ ساری دنیا پر اپنے تسلط کے خواب دیکھ رہا ہے! مورنیا ساری دنیا میں اپنے فن کا خطرہ کرتی پھرتی ہے! حالانکہ اس سیاہی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ساری دنیا میں اپنے ایجنٹ بناتی پھرے! اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ غزالی نے بھی مورنیا کے ساتھ کئی ملکوں کی سیاحت کی ہے اور پیارے فیاض.... اور کیا کیا بتاؤ! میں تو اس کیس میں محض کھیاں مارتا رہا ہوں! یہ دراصل غزالی اور ارشاد کا کیس ہے۔ اس شہید کا کیس ہے جس کے جسم سے اس کی زندگی ہی میں کافی خون نکال لیا گیا تھا!

عمران نے ارشاد اور اس کے ساتھی کا واقعہ دہراتے ہوئے پوچھا ”ارشاد کہاں ہے؟“

”حوالات میں! حالانکہ وہ چیخ رہا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہے وہ بہت اہم رازوں کا انکشاف کرے گا۔ مگر ایس پی نے اسے حوالات میں ڈلوادیا! مورنیا! اس وقت بھی ایس پی کے دفتر میں موجود ہے اور وہ اس کی دل دہی کر رہا ہے!“

”ارشاد بہت کچھ بتائے گا! وہ اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے فیاض وہ ان سے بہتر ہے جو خود کو ملک و قوم کا محبت کہنے کے باوجود بھی ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے!“

”اور کوئی ثبوت عمران.... جلدی کرو پیارے وقت کم ہے! ایس پی مجھ پر قہقہہ لگا رہا ہو گا!“

”اور وہ سنگ ریزے!“ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ ”جو پیشانی میں چسپے ہوئے تھے ان کے پھینکنے کا طریقہ ایک دلچسپ ایجاب ہے!“

عمران دیوار کی طرف بڑھا جہاں اس کا کوٹ ہینگر سے لٹکا ہوا تھا! پھر جیب سے وہ سیاہ رنگ کا چپٹا

سازہ نکال کر فیاض کی طرف بڑھاتا ہوا بولا ”یہ ایک چھوٹی سی پریشر مشین ہے! لوسر آؤ تمہیں دکھاؤں!“

عمران نے ڈبے کو میز پر رکھ کر اسے کھول ڈالا۔ ”یہ دیکھو اس مین کو دبانے سے ایک چھوٹا سا ٹریگر باہر نکل آتا ہے اور یہ دیکھو یہ وہ چھوٹی چھوٹی بیڑیاں.... ٹریگر دباتے ہی یہ بیڑیاں مشین سے کنکٹ ہو جاتی ہیں! مشین چل پڑتی ہے.... اور اس سوراخ سے سنگریزوں کی بو جھاڑ نکلنے لگتی ہے یہ خانہ دیکھو اس میں ان زہریلے سنگریزوں کی خاصی مقدار موجود ہے!....“

”بہت عمدہ!“ فیاض عمران کی پیٹھ ٹھونکتا ہوا بولا ”اب ہم نے میدان مار لیا!“

”اسے لے جاؤ!“ عمران نے کہا! ”لیکن احتیاط سے رکھنا.... ورنہ تمہاری بیوی طلاق لینے سے قبل ہی آزاد ہو جائے گی اور میری فرم کا خواہ مخواہ نقصان ہو گا!“

”مگر عمران! تم غزالی سے کیسے واقف ہو گئے تھے؟“ فیاض نے پوچھا!

”محض اتفاق! وہ خود ہی مجھے مورنیا کا آدمی سمجھ کر مجھ سے بھڑ گیا تھا اور مورنیا نے سلائیو کا حوالہ بھی دیا تھا! پھر اسے اپنی غلط فہمی کا اعتراف کرنا پڑا بھلا میں کب اسے چھوڑنے والا تھا! میں نے اس کا تعاقب کر کے اس کی رہائش گاہ کا پتہ لگا لیا اس طرح دوسری صبح میں اس کی لاش پچپانے میں کامیاب ہوا“

عمران نے لیڈی تویر والے واقعے کا تذکرہ نہیں کیا۔

”اور آرنامونوف!“ فیاض نے پوچھا!

”آرنامونوف.... ہا.... وہ سگریٹ کی ایک خالی ڈبیہ کی وجہ سے پکڑا گیا!....“

عمران نے دوسرا واقعہ بھی دہرایا.... اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا ”اگر وہ اس مرض کا شکار نہ ہوتا تو عمران زندگی بھر سر پختارہ جاتا۔ کیوں کہ وہ مورنیا سلائیو کا نام بھی بھول گیا تھا! یہ ایک بڑی داہمیت عادت ہے! خواہ مخواہ اپنے دستخط بنانا۔ میں نے اکثر تمہیں بھی اس حرکت کا مرتکب ہوتے دیکھا ہے! تم اکثر بے خیالی میں اپنے ناخنوں اور ہتھیلی پر اپنے دستخط بنایا کرتے ہو!“

عمران کچھ دیر خاموش رہ کر پھر بولا! ”لوہر غزالی نے اپنی تحریر میں مورنیا کی قومیت کے بارے میں شبہ ظاہر کیا ہے! وہ لکھتا ہے کہ اس کا نام اطالویوں جیسا ہے لیکن وہ حقیقتاً اطالوی معلوم نہیں ہوتی۔ لہذا میں نے اس کا تجربہ کیا اور مجھ پر حقیقت کھل گئی! وہ اطالوی نہیں بلکہ جرمن ہے!“

عمران نے چگادڑ پھینکنے والی حرکت بیان کی اور کیپٹن فیاض بے تماشہ ہنسنے لگا وہ اس وقت ضرورت سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔

”لیکن عمران!“ اس نے تھوڑی دیر بعد کہا ”رپورٹ پھر بھی نامکمل رہے گی۔ آخر میں اس کے بارے میں کیا لکھوں گا کہ مجھے غزالی کی قیام گاہ کا پتہ کیسے معلوم ہوا تھا!“

”آں ہاں!“ عمران کچھ سوچنے لگا!..... پھر بولا ”ارشاد ہی کی ذات سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا! تم شروع ہی میں اسے اپنی رپورٹ میں جگہ دو۔ اس طرح کہ اس نے تمہارے پاس آکر مورنیا کی اصل شخصیت پر روشنی ڈالی اور اس کا بھی اعتراف کیا کہ وہ خود بھی اس کی جماعت کا ایک رکن ہے! لیکن تمہیں اس کے بیان پر یقین نہیں آیا..... آں پر اس نے غزالی کا حوالہ دے کر اس کا پتہ بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ جنوبی افریقہ کی سیکرٹ سروس کا آدمی ہے اور مورنیا کا تعاقب کر رہا ہے..... جس رات کو یہ گفتگو ہوئی اسی صبح کو غزالی کی لاش پائی گئی..... اور اس کے کوٹ سے برآمد ہونے والی انگشتری نے تمہیں اس کے کوٹ کو ادھیڑ ڈالنے پر مجبور کر دیا اس طرح تمہیں غزالی کی تحریر ملی پھر تم ارشاد کے بتائے ہوئے پتہ پر غزالی کی قیام گاہ کی تلاش میں روانہ ہو گئے وہاں تمہیں صفائی نظر آئی! لیکن وہ سگڑوں کا خالی پیکٹ جس پر آرٹا مونوف کے دستخط تھے ہاں غالباً سمجھ گئے ہو گے..... پھر تم اس سگریٹ کے پیکٹ سے مورنیا سلائیو تک پہنچ گئے!..... ارشاد پھر کل شام کو تمہارے پاس آیا اور اطلاع دی کہ آج رات کو ثریا لاج پر چھاپہ مارا جائے تو مجرم بین موقع پر گرفتار کئے جاسکتے ہیں کیوں کہ وہ مقامی جماعت کے ایک فرد کو اس کی ایک غلطی کی بناء پر سزا دیں گے!۔ چنانچہ تم نے چھاپہ مارا اور کامیاب ہو گئے!..... بس اب تم جا کر ارشاد کو پکار کر لو اور ہاں ارشاد سے یہ بھی کہلو دینا کہ اسے غزالی کی شخصیت کا علم مورنیا ہی سے ہوا تھا! مورنیا نے اس سے کہا تھا کہ وہ غزالی سے ہوشیار رہے۔“

”جیو! عمران جیو!“ فیاض ایک بار پھر اس کی پیٹھ ٹھونکنے لگا ”بولو..... کیا مانگتے ہو..... جو کچھ کہو گے مل جائے گا..... بولو کیا مانگتے ہو!“

”دس ایکس فالڈ ہر عورتیں جو اپنے شوہروں سے طلاق چاہتی ہوں!“ عمران نے سنجیدگی سے کہا اور فیاض ہنسے لگا۔

اب باقی بچے تھے سر تنویر اور لیڈی تنویر! عمران کو ان کی فکر تھی اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح ان کا راز اگلوایا جائے۔

ٹھیک ایک بجے دن کو مقامی اخبارات کے ضمیمے بازار میں آگئے! ان میں غزالی اور مورنیا

سلائیو کی داستانیں شائع ہوئی تھیں! عمران نے سوچا کہ بس یہی وقت مناسب ہے لہذا وہ سر تنویر کے دفتر میں جا دھکا۔۔۔ سر تنویر اخبار ہی دیکھ رہا تھا عمران کا سامنا ہوتے ہی اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔

”اور سنائیے جناب کیا خبریں ہیں!“ عمران بڑی بے تکلفی سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔

”تم..... بغیر..... اجازت..... یہاں!“

”اس کی پروا نہ کیجئے۔ اخبار میں نے بھی پڑھا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہاں غزالی کی شخصیت میں دلچسپی لینے والے صرف مورنیا کی جماعت ہی کے آدمی ہو سکتے ہیں!“

”نہیں..... یہ ضروری نہیں!“ سر تنویر کی سانس تیزی سے چلنے لگی تھی۔

”لیکن میری شرافت بھی ملاحظہ ہو کہ میں نے اب تک پولیس کو آپ کے بارے میں مطلع نہیں کیا اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں بلیک میلر ہوں!“

”تم کیا چاہتے ہو!“ سر تنویر نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔

”حقیقت بتا دیجئے! بس اتنا ہی کافی ہے!“

”اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا!“

”بتانے سے آپ کو کیا نقصان پہنچے گا!“ عمران نے سوال کیا!

سر تنویر کچھ سوچنے لگا! عمران نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ پھر بحال ہوتا جا رہا ہے اور آنکھوں کی صحت مند انداز چمک بھی عود کر آئی ہے!

دفتر سر تنویر اٹھتا ہوا بولا ”اچھا تم بیٹھو..... میں لیڈی تنویر کی موجودگی میں کچھ بتا سکوں گا۔! کیوں کہ اس کا تعلق ان کی ذات سے زیادہ ہے!“

”تو آپ چلے کہاں!“ عمران اٹھتا ہوا بولا۔! لیکن اتنی دیر میں سر تنویر دروازے سے نکل کر اسے باہر سے بند کر چکا تھا!..... عمران کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی!

دوسری طرف دوسرے کمرے میں سر تنویر فون پر جھکا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا۔ ”سارہ، سارہ..... میں نے اس بوگس ڈاکٹر کو اپنے آفس میں بند کر لیا ہے! تم عمران کو ساتھ لے کر فوراً آجاؤ..... آؤ..... جلدی کرو..... بہت جلدی!“

وہ اس کمرے سے نکل کر پھر اپنے دفتر کے سامنے آگیا! چہرہ اسی کو اس نے پہلے ہی بھگا دیا تھا! عمران بڑے سکون سے اندر بیٹھا رہا! اور اس کے اس سکون پر سر تنویر کو بھی حیرت ہو رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد لیڈی تنویر بوکھلائی ہوئی وہاں آئی.....

”وہ تو..... وہ تو..... نہیں مل سکا ڈارلنگ۔“ اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ وہ ڈاکٹر کہاں ہے!“

سر تویر نے دروازے کی طرف اشارہ کیا! لیڈی تو بیچوں سہکے بل اوپر اٹھ کر شیشوں سے اندر جھانکنے لگی!.... پھر اس نے ایک طویل سانس لی اور پلٹ کر پوچھا! کیا یہی ہے!“
سر تویر نے اثبات میں سر ہلادیا اور لیڈی تویر بولی ”دروازہ کھول دو۔“
”کیوں! کیوں!“

لیڈی تویر نے کوئی جواب نہ دیا! وہ بے تحاشہ ہنس رہی تھی! پھر اس نے خود ہی دروازہ کھول دیا سر تویر اس کے اس طرح ہسنے پر بری طرح جھلا گیا۔ عمران لیڈی تویر کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا!
لیڈی تویر پر گویا ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا! عمران بھی بے تحاشہ قہقہے لگانے لگا! لیکن وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا!....
”اوہ یہ کیا لغویت ہے!“ اچانک سر تویر زور سے گر جا۔

لیڈی تویر خاموش ہو گئی! لیکن عمران بدستور ہنستا رہا اور وہ اس طرح پیٹ دبا دبا کر ہنس رہا تھا جیسے سانس نہ سار ہی ہو!

لیڈی تویر جیسی سنجیدہ عورت بھی دوبارہ ہنس پڑنے پر مجبور ہو گئی!

آخر اس نے بدقت تمام کہا ”عمران.... یہی.... ہے“

”کیا.... عمران!“ سر تویر نے حیرت سے کہا.... اور پھر وہ بھی ہسنے لگا۔

عمران اچانک سنجیدہ ہو گیا! بالکل ایسا ہی معلوم ہوا جیسے یک بیک کوئی مشین چلتے چلتے بند ہو گئی ہو.... اس پر ان دونوں کو اور زیادہ ہنسی آئی۔!

خدا خدا کر کے ماحول سنجیدہ ہوا اور عمران نے پھر مطلب کی بات چھیڑ دی!....

اور اب لیڈی تویر کو بتانا ہی پڑا۔ لیکن اس نے عمران سے وعدہ لے لیا کہ وہ اس کا راز خود

اپنی ذات ہی تک محدود رکھے گا!

”نہیں رکھے گا تو ہم اسے پکڑ کر پٹیں گے!“ سر تویر نے کہا ”کیا رحمن صاحب کے لئے“
پر میرا اتنا بھی حق نہ ہو گا!“

پھر سر تویر نے بتایا کہ دونوں کی شادی افریقہ میں ہوئی تھی.... اور لیڈی تویر نچلے طبقہ کی ایک آوارہ عورت تھی!.... لیکن سر تویر کو اس سے محبت ہو گئی لیڈی تویر بھی اسے چاہنے لگی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی بیکسر بدل دے گی! لہذا دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے یہاں کسی کو بھی لیڈی تویر کی اصلیت سے واقفیت نہیں تھی اور وہ سوسائٹی میں عزت کی نظروں سے دیکھی جاتی تھی! غزالی کے متعلق دونوں صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ وہ نسلآ تبرک ہے اور جنوبی افریقہ کا باشندہ بھی اور لیڈی تویر کی اصلیت سے بھی اچھی طرح واقف تھا لہذا

اسے ایک دن اپنے ملک میں دیکھ کر سر تویر کو بڑی حیرت ہوئی اور اس نے سوچا کہ کہیں غزالی یہاں کے اعلیٰ طبقے تک یہ بات نہ پہنچا دے.... لہذا وہ دونوں اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کرنے لگے جب کامیابی نہ ہوئی تو لیڈی تویر نے عمران کی مدد حاصل کرنے کے متعلق سوچا کیونکہ اس کی فرم کا اشتہار کافی اطمینان بخش تھا! یعنی وہ سمجھ گئی کہ وہ کوئی پرائیویٹ سرانرساں ہے اور قانونی طور پر یہاں کسی پرائیویٹ سرانرساں کی گنجائش نہیں ہے اس لئے اس نے طلاق و شادی کے ادارے کا ڈھونگ رچایا ہے! مغربی ممالک میں بھی اکثر اسی قسم کے تعلقات عامہ کی فرمیں پائی جاتی ہیں! لیکن حقیقتاً ان کے ارکان پرائیویٹ سرانرساں ہوتے ہیں اور کسی قانونی دشواری کی بناء پر اس قسم کے اداروں کی آڑ لے کر کام کرتے ہیں!
بہر حال یہ داستان دونوں کی جھینپی جھینپی سی ہنسی پر ختم ہو گئی۔

ختم شد



ابن صفی